

مِنْ كُلِّ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلَيْيُ مُوْلَاهُ




خَلِيلِ عَلِيٍّ




تألیف:

أَبْدَلَ أَبْوَعَبْدَالْحَسَنِ الْجَمَانِ شَعِيبَةُ النَّسَابِ
ترجم: نویزہ شمسدین فائد تحقیق و تحریر: علام فاضل صطفی خاں پوری

وَلِقَاتُكُمْ فِي الْأَنْذِكِ



اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم و لا بے



مَنْ يَكْتُمْ مَوْلَاهُ فَهُدَىٰ عَلَيْهِ مُهَلاً

”حضرور نبی کریم ﷺ نے ”غدیر خم“ کے مقام پر سیدنا علیؑ کا ہاتھ مبارک پڑ کر فرمایا: جس کا میں مولیٰ، علیؑ بھی اس کا مولیٰ ہے پھر آپ ﷺ نے مزید فرمایا: اے اللہ جو علیؑ کا دوست ہے اس کو تو بھی اپنا دوست بن جو علیؑ کا دشمن ہے اس کو تو بھی اپنا دشمن بن۔“

(مسند امام احمد: 4/370، نصائص علی للنسائی: 87، السنیۃ لابن الجوزی: 1371، وساناده صحیح والحدیث متواتر)

Khasais-e-Ali

Imam Abu `Abd ar-Rahmān Ahmed bin Shoaib al-Nasa'i

Translation by: Naveed Ahmed Rabbani

Jhelum: Book Corner. 2014

288p.

1. Hadith Pak - Seerat

ISBN: 978-969-9396-69-4

جُلُهُ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اس کتاب کے حقوق بحق ادارہ "بک کارز جلم" محفوظ ہیں اس ترجمے کا استعمال کی ہی ذریعے سے غیر قانونی ہو گا۔

خلاف درزی کی صورت میں پیش قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

قانونی مشیر: عبدالجباریت (اندی، کتب بلکوت)

ماہ جنور 2014ء : اشاعت

نام کتاب : نام کتاب

خواص علی چشم

اہم ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی

نویجہ شمدبادی : تالیف

مترجم

فائدہ تحقیق و تخریج

علام غلام صطفیٰ نیریں پوری

سید امیر کوکھر / حافظ ذیشان ایوب

ترتیکین و اهتمام

شاذہ حمید / ولی اللہ

معاویین

گنگن شاہد / امر شاہد

سرور ق

مطبع

ابو امامہ

بی پی انچ پر نظر، لاہور

النماس: اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کے ترجمے، پروف ریڈنگ، ایٹیکٹ، طباعت، تصحیح اور جلد بنندی میں انتہائی اختیاطی کی گئی ہے۔ تاہم غلطی کا خالص بہر حال باقی رہتا ہے۔ بشر ہونے کے ناتاط اگر ہوا غلطی رہ گئی ہو یا صفات دوست نہ ہوں تو ناشر، پروف ریڈنگ اور طبائع ہر قسم کے سہو پر اللہ غور الرحم سے غفو و کرم کے خواست گاریں۔ قارئین سے گزارش ہے کہ کتاب میں اگر کہیں بھی غلطی یا خاتم نظر آئے تو ازاہ کرم مطلع فرمادیں تاکہ آنکھہ ایڈیشن میں درستی عمل میں لائی جاسکے۔ ادارہ "بک کارز جلم"، کے متعاقین اپنے کرم فرماؤں کے تعاون کیلئے بے حد شکر گاریں۔ (ناشر)



DISPLAY CENTER

BOOK CORNER SHOWROOM

Opposite Iqbal Library, Book Street, Jhelum, Pakistan

Ph: +92 (0544) 614977, 621953 - Mob: 0323-577931, 0321-5440882

<http://www.bookcorner.com.pk> - email: bookcornershowroom@gmail.com

www.facebook.com/bookcornershowroom

من کتبہ دخولم و قلعہ میں رہا۔ آسانی سے لبھتی احمد موسیٰ دریج ہے کہ اب بارہہ دن برابر
برید فوج زبرد من اردوسہ رکھتی تھی میں نے بس کیسے کی تفصیلی تاریخ اور علماء کے کام درا رہے
و تو کتاب نہ لچک رہے۔ الحمد للہ من ہذا ہر ایسے دل خوش عمل ہستہ و آسانی مذکورہ اسی طرح رائی
اساں ایسی مذکورہ اسی مذکورہ میں ہے اسی کتاب حشیشی و لعمہ الحشیشی ہوہے اکبر کے حقہ اسے اساتھ مٹا دیا تھا سبق نام
والیوں کی پڑھیت اپنی مرسول اس صورت میں مخفیت و الشکار کے لئے کام کیم بچوں والوں اسی سے
جس کے باہر جانشینی کر دیا گا حادثہ کہ کافی دار ادی فی الرعن العذر المغضا فی الحشیش ذلک الحشیش
درہ ملے دوسری فرمادی اس لیے الحشیش ایسا کام کیا کہ دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے
میں بھر کیم دخن کیا اور دی ریخان فیصلہ کرو دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش و دلکش
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش کرو دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش
مالیقیت سے طبق کیا دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے
و دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے دلکش ایسے

(۱) میرزا علی بن ابی شفیع سعید احمدی (ابو مسیح) مذکور ایسا کاتب دالہ در دیلمی
(۲) میرزا علی بن ابی شفیع سعید احمدی (ابو مسیح) مذکور ایسا کاتب دالہ در دیلمی
(۳) میرزا علی بن ابی شفیع سعید احمدی (ابو مسیح) مذکور ایسا کاتب دالہ در دیلمی
(۴) میرزا علی بن ابی شفیع سعید احمدی (ابو مسیح) مذکور ایسا کاتب دالہ در دیلمی

پہلیہ کتاب الفصائص (النسخۃ المعتبرۃ)

امام فیضی اللہ علیہ السلام کی کتاب ”خصوصیات علی بن ابی شفیع“ کے عربی نسخہ کے ابتدائیہ کانا یاب عکس

اگرچہ وہ اس مادتہ کی پیشگفتگان تھے مگر جو اسلام نے اپنے دعوے میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکم
کا اخراج سوں اسرائیل اور موسیٰ کا نام ہے اور نبی موسیٰ اور نبی موسیٰ کا کتب و لپیس
بھائیتی تھاتھ نے مکٹھ تر ہوں اسلامی اس مادتہ کا نام ہے اور نکتھ تھاتھ میں ملکہ سید نبیر شریف علیہ السلام
بلای ایسا سینہ و القرباب و ان لا کچھ ملائیں ملکہ بکھران اُراؤ انہیں جو مردیں و دیوانی اٹھائیں
اذا را را لئی یقین تھا دھرم دھرمی لا جل اتو اعلیٰ ھن لڑائیں لصاحبک تیار ہیں اسی لاجج خرج
اور یہ موادر دفعہ منتعہ اسی حربے نتالک برکت یا تم ضنادیہ لے اپنی خارج میدا میں اسماں
روکا بستہ ہیکل ختنہ تھا ختم فرمائی و زیدہ حضرت مولیٰ انا نڈھا مادھ اسی حکم حارثہ حضرت
انہیں وہ ذاتی ختنہ وہ رشتہ ابتدی خصیقی یا رسول وہ مولیٰ نہ کسی کلہنہ اور کلہنہ ایام
کی مارکیں اسی میں دانستکل و مادح کھنزا بشیش تھی و ٹھکنے کیں اور ایسے اخواز کو مواد میں
تماریں ایضاً رجح ابھی حربہ کیا ایسا ابھر کریں الرضا خدا
کے ایک ایسی نہ رکھیں بیرونی و ہیئتی۔ کچھ پیشہ یہ تھا کہ سید اسے اس طبقہ
کریمیوں اور مادھ کاریوں اور اسی عین ہائی دریاں و پھرہوں کے عینہ اپنی مختہوں
دنم

لطفت کریم

باہم بر جوہ مفعوں بینت جلی دوں جو اپنے ٹھم کیا ہے اندھوں ایسا نہ کہتا۔ اسکے بعد اسرا را رنجی
کاٹے تو بھی اپنے کھنے اسیتھے خلیل و خاتم اپنے کسم اسرائیل حکم صلی اللہ علیہ وسلم
پسلا دو رہے ایام ایاس لی ایکنواحد دو قلیل پسکھتے تو ایسے دو حجتیں ابی محمد حسن علیہ السلام ایں
گردہ گردہ پیشہ کی خدی جو احمدی اسی ای مدد و مصلحتی ایسا کہ مسالی بیرونی کی اسکی گلیوں
ڈنگیوں کے ایک بکوئی استشارة میں ٹھونڈے سمجھنے کی استفادہ کریں ایسا کہ ایسا کم
بیریہ رسول و اسرائیل کو اولاد انتکوں ما دلت بیو اسرا یہی لوئی اذھبہ ایسے دیکھو معاشر
والا پر ایک نیکتھے ایک کارکھا ایک آنکھی ایک عالمی ایک راستہ ایک ساری بیرونی ایسا کیلئے
خیالیں دیں وہ خیالیں صدر بعده من الذکر بعنی دوہرہ ایک میخی مسروں کے کم ایک میخی
بیرونی احمدیوں پر ایک راستہ ایک دوہرہ وہی ایک میخی کام ایک دوہرہ وہیں کھلے کھلے ایک دوہرہ
ایک ایک بیکاری ایک ایک دوہرہ ایک ایک دوہرہ ایک ایک دوہرہ ایک ایک دوہرہ ایک دوہرہ

نهاية کتاب المصالح (النسخه المغربية)


امام نسائی رضي الله عنه کی کتاب ”نڪاڪ علی شفعت“ کے عربی نسخہ کے اختتامیہ کا نایاب عکس

من طاری سے
 نور کا لکھنے کا خال میں ہے میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 کسی کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 کب کم من بیکھنے کا سوتا من بیکھنے کا سوتا
 میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 کوئی میکھیں میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 تکہت نور گھر کے قلعے کے قلعے کے قلعے کے قلعے
 من کھنے کی بڑی دینی کی سوتا من بیکھنے کا سوتا
 قل سوں سوں سوں میں حبقوں و میر جبیں میں سوتا میں کہا
 وہیں سوں وہیں سوں خالی بیکھنے میں بیکھنے میں بیکھنے
 پہنچ جو دارے پھیوں میں میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 حستِ بھبھن بٹھا، خالی بیکھنے میں بیکھنے میں بیکھنے

من طاری سے
 میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا
 میں کوئی کہا میں کوئی کہا میں کوئی کہا

من وجہ سہ نسخہ الرسیہ ۹

امام نسائی رضی اللہ عنہ کی کتاب ”خاصص علی شاشہ“ کے ہندی نسخہ کا ایک نمونہ



امام نسائیؑ کی کتاب ”نڪاڪ علی ڀيٺو“ کے ہندی نسخہ کے ابتدائیہ کا نایاب عکس

فہرست

13	عرض ناشر
14	عرض مترجم
16	پیش گفتار
20	امام نسائی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے حالات زندگی
25	خاص علی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
25	امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے خصائص کا ذکر جمیل اور ان کا اس امت میں تمام لوگوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان
27	اس خبر کو امام شعبہ سے بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی) اختلاف
37	سیدنا علی المرتضی <small>علیہ السلام</small> کی عبادت کا بیان
40	دربار الہی میں سیدنا علی المرتضی <small>علیہ السلام</small> کا مقام
60	سیدنا ابو ہریرہ <small>رض</small> سے اس روایت کو بیان کرنے میں تقیین کا (لفظی) اختلاف
64	اس سلسلے میں سیدنا عمران بن حسین <small>رض</small> کی روایت
65	نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے سیدنا حسن بن علی <small>رض</small> کی ذکر کردہ روایت کا بیان کہ سیدنا جبریل <small>علیہ السلام</small> سیدنا علی <small>رض</small> کے داکیں اور سیدنا میمکا میل <small>علیہ السلام</small> باعکس جاہب رہ کر جنگ کرتے ہیں
73	نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا سیدنا علی <small>رض</small> کے بارے میں یہ فرمان: ”بلاشبہ اللہ عز و جل ان کو کبھی رسوئیں کرے گا“
78	نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا سیدنا علی <small>رض</small> کے متعلق یہ فرمان: ”ان کو بخش دیا گیا ہے“
80	اس روایت کو بیان کرنے میں ابو اسحاق کی روایت کا (لفظی) اختلاف
84	نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے اس فرمان کا بیان ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے علی کے ایمان قلب کا امتحان لیا ہوا ہے“
87	نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا سیدنا علی <small>رض</small> کے متعلق یہ فرمان: ”عنقریب اللہ تیرے دل کو ہدایت سے نوازے گا اور تیری زبان کو ثابت قدی عطا فرمائے گا“

89	اس حدیث کو بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی) اختلاف
92	اس روایت کو بیان کرنے میں ابو سحاق کا (لفظی) اختلاف
94	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”مجھے علی کے علاوہ ان تمام دروازوں کو بند کروانے کا حکم دیا گیا ہے“
99	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”میں نے یہاں علی کو داخل نہیں کیا اور تم کونکالا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل کیا اور تم کونکالا ہے“
105	نبی کریم ﷺ کی نظر میں سیدنا علیؑ کا مقام
108	اس حدیث کو بیان کرنے میں محمد بن مسکد رکا (لفظی) اختلاف
119	اس حدیث کو بیان کرنے میں عبداللہ بن شریک کا (لفظی) اختلاف
123	اخوت کا بیان
130	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں“
131	اس حدیث کو بیان کرنے میں ابو سحاق کا (لفظی) اختلاف
134	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”علی میرے نفس کی طرح ہے“
136	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”علی میرا صفائی اور امین ہے“
137	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”میرے اور علی کے علاوہ میری ذمہ داری کوئی نہیں ادا کرے گا“
138	نبی کریم ﷺ کا سیدنا علیؑ کو سورہ توبہ کے احکام دے کر بھیجنے کی توجیہ کا بیان
144	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”جس کا میں مولیٰ (دوست) اس کا علی مولیٰ (دوست) ہے“
152	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”میرے بعد علی ہر مومن کا ولی (دوست) ہے“
154	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”میرے بعد علی تہارا ولی (دوست) ہے“
156	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”جس نے علی کو برا بھلا کہا، بلاشبہ اس نے مجھے برا بھلا کہا“
160	سیدنا علیؑ سے دوستی رکھنے کی ترغیب اور ان کی دشمنی میں ترہیب
164	سیدنا علیؑ کے ساتھ محبت کی ترغیب، اس آدمی کے لئے نبی کریم ﷺ کی دعائے خیر کا بیان جو سیدنا علیؑ سے محبت کرے اور اس کے حق میں بددعا جو سیدنا علیؑ سے بغرض رکھے
169	مومن اور منافق کے درمیان فرق کا بیان

171	نبی کریم ﷺ کا سیدنا علی بن ابی طالب ؓ کے لیے مثال ذکر کرنے کا بیان
173	سیدنا علی بن ابی طالب ؓ کے مقام اور نبی کریم ﷺ سے قربت داری جو کہ انتہائی قربی تھی اور رسول اللہ ﷺ کی ان سے محبت کا بیان
182	نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضری، مسائل پوچھنے اور آپ ﷺ کے پاس ٹھہرنا کے اوقات میں سیدنا علی ؓ کا مقام
184	اس روایت کو بیان کرنے میں مغیرہ کا (لفظی) اختلاف
188	سیدنا علی ؓ کی اس خاص فضیلت کا بیان: ”نبی کریم ﷺ نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کیا“
190	سیدنا علی المرتضیؑ کی تمام اولین و آخرین میں اس خاص فضیلت کا بیان: ”ان کے لیے نبی کریم ﷺ کی نخت جگر سیدہ فاطمہ ؑ کا انتخاب ہوا جو کہ سیدہ مریم بنت عمران ؑ کے علاوہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں“
197	ان احادیث کا بیان کر (جن میں مذکور ہے) رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ؑ سیدہ مریم بنت عمران ؑ کے علاوہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں
200	ان احادیث کا بیان کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ؑ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں
205	ان احادیث کا بیان: ”سیدہ فاطمہ ؑ نبی کریم ﷺ کے جدِ اقدس کا نکڑا ہیں“
206	اس روایت کو بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی) اختلاف
208	سیدنا علی بن ابی طالب ؓ کی اس خاص فضیلت کا بیان: ”سیدنا حسن اور حسین ؑ نبی کریم ﷺ کے نواسے، دنیا میں رسول اللہ ﷺ کے پھول اور عیسیٰ بن مریم اور سیجی بن زکریا ؑ کے علاوہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں“
210	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”حسن اور حسین میرے نواسے ہیں“
212	نبی کریم ﷺ کی ان احادیث کا بیان: ”حسن اور حسین ؑ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں“
215	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”حسن اور حسین ؑ اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں“

217	سیدنا علیؑ کے لیے نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان: ”علی! تم فاطمہ سے میرے نزدیک زیادہ معزز ہو اور فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے“
219	نبی کریم ﷺ کا سیدنا علیؑ کے لیے یہ فرمان: ”جو میں نے اپنے لیے مانگا، وہی تیرے لیے بھی مانگا“
222	سیدنا علیؑ کی اس خاص فضیلت کا بیان: ”نبی کریم ﷺ کا ان کے لیے دعا کرنا“
224	سیدنا علیؑ کی اس خاص فضیلت کا بیان: ”گرمی اور سردی کی تکلیف ان سے پھیر دی گئی ہے“
226	سیدنا علی الرضاؑ کی اس فضیلت کا بیان: ”ان کے سبب اس امت پر آسانی کی گئی“
228	لوگوں میں سب سے بڑے بدجنت کا بیان
231	سیدنا علیؑ کی اس فضیلت کا بیان: ”انہوں نے سب سے آخر میں نبی کریم ﷺ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا“
233	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”علی (ﷺ) قرآن کریم کی تاویل پر جہاد کرے گا جس طرح کہ میں نے اس کے نازل ہونے پر کیا ہے“
235	سیدنا علیؑ کی مدد کے لیے ترغیب دلانے کا بیان
237	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”عمر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا“
244	نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان: ”لوگوں میں ایک گروہ (خوارج) نکلنے گا، انہیں دو گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا“
248	سیدنا علی الرضاؑ کی اس خاص فضیلت کا بیان: ”وہ خوارج کے ساتھ جنگ کریں گے“
254	اس حدیث کو بیان کرنے میں ابو سحاق کا (لفظی) اختلاف
256	ان کی علامات کا بیان
259	ان لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا بیان جو خوارج کو قتل کریں گے
269	اہل حرومہ کے ساتھ سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ کے مناظرے کا بیان اور اس میں ان (خوارج) کے سیدنا علی بن ابی طالبؓ پر اعتراضات کی تردید
275	سیدنا علی الرضاؑ کی مذکورہ بالا صفات کی موید روایات

عرضِ ناشر

کوئی بھی کلمہ گو مسلمان خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی شان میں کسی طرح بھی کسی پیشی کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔

آپ ﷺ کی شان، آپ ﷺ کا مقام، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے وہ شان وہ مقام وہ فضیلت اس قدر منفرد ہے جس کی وجہ سے برسوں پہلے امام نسائی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَعَمَ نے ایک بڑی کتاب ”خصائص علی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ“ کے نام سے تالیف کی جو عربی و ان طبقے میں بے حد مقبول ہوئی۔

عربی زبان سے ناقف قارئین کے لیے اس نادر و نایاب کتاب سے استفادہ ایک مشکل امر تھا، اس لیے ادارہ بک کارز چلم نے علماء سے رابطہ کیا لیکن کافی سال گزرنے کے باوجود ہمیں کوئی عالم دین اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں متأثر نہ کر سکا، البتہ تلاش جاری رہی۔ اب ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔

ہماری کوششیں کامیاب ہوئیں۔ بالآخر نوید احمد ربانی کی شکل میں ہمیں گوہر مقصود مل گیا اور امام نسائی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ کی عظیم کاوش کو ایک مناسب مترجم میر آ گیا۔ اب کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، پڑھتے ہوئے آپ ان شاء اللہ میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ یہ کتاب ترجمہ ہونے کے باوجود اپنی سلسلیں زبان کی وجہ سے روایا ہے اور ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔
پڑھیے اور دعاوں میں یاد رکھیے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو!

شاہد حمید

عرضِ مترجم

حیدر کرار، غزوہ خبر کے علمبردار، داماد رسول ﷺ، سیدہ فاطمۃ الزہراء ؓ کے شوہر نامدار، حسین کریمین ؓ کے والد ماجد اور چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب ؓ کا مقام و مرتبہ اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔ ان کے ساتھ محبت ایمان اور بعض نفاق کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے زیر سایہ پر درش پائی، جس کا اثر آپ ؓ کی شخصیت پر نمایاں تھا۔ شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا خاص ملکہ حاصل تھا، علی میدان میں بھی اصحاب رسول ﷺ میں بلند مقام کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فضائل و مناقب کا ایک تفصیلی باب آپ ؓ کے حصے میں رکھا، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ اور کتب سیر و تواریخ میں رقم کیا گیا ہے۔

اسی ضمن میں الحافظ، شیخ الاسلام، ناقد الحدیث، صاحب السنن الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی (215-303ھ) نے سیدنا علی ؓ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ”خاصَّصِ علیٰ ڈالنگ“ کے نام سے موسم مجموعہ پیش کیا۔ پیش نظر کتاب اپنے موضوع میں جامع اور انتہائی مفید ہے۔ سیدنا علی ؓ کے فضائل و مناقب کے بارے میں امام نسائیؑ نے ایک کثیر مجموعہ اکٹھا کیا تھا جسے ہم نے اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور فضل عظیم سے اردو قلب میں ڈھانے کی سعادت حاصل کی ہے۔

ہماری بھرپور کوششوں کے باوجود اہل علم سے امتاس ہے کہ اگر کسی مقام پر غلطی نظر آئے تو ہمیں مطلع فرم کر ضرور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں، ایسے ہر خیرخواہ کی راہنمائی اور ثابت تقدیم کا کھلے دل سے احترام کیا جائے گا، اس ہمدردی کے شکر گزار بھی ہوں گے۔

اس کتاب کی تیاری میں جن خیر خواہ رفقاء نے ہمارا ساتھ دیا، ان میں علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حَسَنَة کا نام شامل ہے، جنہوں نے فوائد، تحقیق و تخریج کے کام کو بڑی محنت اور ذمہ داری سے مکمل کیا، ہمارے قابل احترام دوست جناب پروفیسر سید امیر حکومر نے کتاب کے مسودہ کو بالاستیعاب پڑھنے کے بعد واقع ابتدائی قسم کیا، برادرم حافظ ذیشان الیوب نے پروفیسر نگ کے کام کو عرق ریزی سے سراجام دیا۔ کپوزنگ کے محتاط مرحلہ کو رضوان احمد مختار نے بخوبی طے کیا۔ ان خیر خواہ ساتھیوں کے علاوہ جن بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔

ہماری پہلی کاؤشوں کی طرح اس کوشش کو بھی پاکستان کا معروف اشاعتی ادارہ ”بک کارز“ اپنے مخصوص اور منفرد انداز سے شائع کر رہا ہے۔ بلاشبہ ان کی حوصلہ افزائی کے بغیر یہ کتاب پاہنچ کیلئے کونہ پہنچ پاتی۔ اللہ تعالیٰ ادارہ کی پاسبانی فرمائے۔

آخر میں مولائے رحیم و کریم سے عاجزانہ دعا ہے کہ اس کاؤش کو قبول فرمای کر ہمارے لئے، ہمارے اساتذہ، والدین، دوستوں اور قارئین کے لئے روی مکشر ذریعہ نجات بنادے۔

آمین یا رب العالمین!

خادم العلم والعلماء

نوید احمد ربانی

na.rubbani@gmail.com

پیش گفتار

اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہ کار تخلیقِ محبوب نبی ﷺ کو رسالت و نبوت کا آفتابِ عالم تاب بنا کر سرز میں عرب میں مبعوث فرمایا۔ جس کی ضیا بار سہانی کرنوں سے نہاں خانہ ہائے دل منور ہو گئے، کشوڑا زہان میں روشنی کی سوغات بنتے گئی، اقليمِ دل و جاں کی روشنیں جو صدیوں سے ویراں پڑی تھیں، دعوتِ نظارہ دینے لگیں، ان سراجِ میر ﷺ سے جہنوں نے پہلے پہل اپنے دامن کو مستفید کیا، ان میں (بچوں میں) خانوادہ بنوہاش کے چشم و چراغ، پدر حسین کریمین پڑھا، سراجِ سیدہ زہرا بتوں پڑھا سیدنا علی المرتضی علیہ السلام سرفہرست ہیں۔

سیدنا علی المرتضی علیہ السلام نے اذعان و یقین کی دولتِ سرمدی تباہی، جب ابھی عرب کے لوگ تشکیک و ارتیاب کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، مصلحتیں اور منفعتیں حقیقت کے رُخِ زیبا کو پہچانے میں سدر راہ نہیں ہو سکیں تھیں، جب سید عالم ﷺ نے اپنے خاندان کو دینِ اسلام کی فوز و فلاح سے معمور دعوت دی تو جس طالع مندا اور بلند اقبال کو لبیک کہنے کی توفیق ارزانی ہوئی اسے ”اسد اللہ علی علیہ السلام“ کے نامِ نامی سے جانا جاتا ہے۔

سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کی لاکارو یلغار اتنی جاندار ہوتی تھی کہ مختلف غزوات (خبر، بدر، أحد، خندق، جوک وغیرہ) میں کفار کے بے شمار سور ماڈل کو ایک ہی وار میں کیفر کردار تک پہنچا کردم لیتے۔ آپ علیہ السلام کے نام سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا تھا، بڑے بڑے جری اور تحریر کا رجگ جو بھی آپ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے سے خائن رہے اور اگر کہیں با مرِ مجبوری مقابلہ بھی کیا تو خائب و خاسر ہو کر اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے
جنہیں تو نے بخشنا ہے ذوقِ خدائی
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراء دریا
سمت کر پہاڑ ان کی بیت سے رائی
آپ ڦئڻتو کی شخصیت روحانی، رعنائی اور اخلاقی زیبائی کا پیکر جمیں، صبر و رضا کا مجسمہ،
فقرو و استغنا کا نمونہ، علم و حکمت کا مرقع، عفت و عصمت کا منع، اخلاص و فدا کا سراپا اور شجاعت و بسالت
کا معیار تھی۔

صاحب نظری، صالح فکری اور راست گوئی آپ ڦئڻتو کی شخصیت کا حصہ تھیں، آپ ڦئڻتو
قلب و نظر کی بصیرتوں اور سیرت و کردار کی رفتگوں کے حامل تھے۔ آپ ڦئڻتو مظہر صدق و صفا،
منفی جود و سخا، پکیزِ حلم و حیا اور داما مصطفیٰ ڦئڻتو تھے۔ صبر و رضا اور فقرو و غنا میں شان امتیازی کے مالک
تھے، بقول شاعر:

تری خاک میں ہے اگر شر تو خیالِ فقرو غنا نہ کر
کہ جہاں میں ہے نانِ شعیر پر مدارِ قوتِ حیدری

حضور سرورِ ریکائیات ڦئڻتو نے اپنے اس جاں نثار و جاں سپارِ مجاہد کی عظمت و رفتگو کو اپنی
ماينطيق عن الھزوی کی زبانِ حق ترجمان سے بیان کیا ہے۔ ابتدائی سے علمائے محدثین نے ان
احادیث کو اپنے مجموعہ میں فضائل و مناقب سیدنا علی المرتضی ڦئڻتو کے عنوان کے تحت درج کیا
ہے۔ پیش نظر کتاب خصائص سیدنا علی المرتضی ڦئڻتو شیخ الاسلام، ناقد الحدیث، صاحبِ سنن، امام
ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی ۲۱۵-۳۰۳ھ کی تالیف ہے جس میں انہوں نے
سیدنا علی المرتضی ڦئڻتو کی وہ شخصی عظمتیں اور سیرت و کردار کی رفتگیں مختلف ابواب میں بیان کی ہیں جو
تاجدارِ عرب و عجم ڦئڻتو کی نقطہ گوہ بار سے مختلف اوقات میں بیان کی گئیں، ان کا ایک سرسری
مطالعہ بھی آپ ڦئڻتو کی عظیم المرتبت شخصیت اور خصائص و شناکل کا آئینہ دار ہے۔

☆ آپ ﷺ کو سرکار دو عالم ﷺ نے اپنا ولی (دوست / مددگار) قرار دیا اور آپ ﷺ سے محبت کو اپنی اور اللہ کی محبت جبکہ آپ ﷺ سے عداوت کو اللہ تعالیٰ اور اپنے سے عداوت قرار دیا ہے۔

☆ آپ ﷺ نے اپنے اس تعلق کو سیدنا موسیٰ و سیدنا ہارون علیہما السلام کے باہمی تعلق کے ساتھ تشییع دی۔

☆ اما تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَتْرِلَةً بَارُونَ مِنْ مُؤْسِى؟ إِلَّا أَنَّهُ لَا تُبُوَّةَ بَعْدِي غزوہ خیر کے موقع پر شکرِ اسلام کی سپہ سالاری آپ ﷺ کو سونپتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دی کہ علی (ﷺ) اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ بھی علی ﷺ سے محبت کرتے ہیں گویا آپ ﷺ کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محنتیت و محبوبیت پر مہرِ تقدیق ثابت فرمادی۔

لَا ذَفَعَنَ الْيَوْمِ الرَّاهِيَةِ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں، علی المرتضی (ؑ) اس کا مولا ہے۔

☆ منْ كُنْتُ مَوْلَادُ فَعَلَيِّ مَوْلَادٌ سیدنا علی المرتضی (ؑ) کے ساتھ محبت کو تقاضائے ایمان جبکہ آپ ﷺ سے بغض و عداوت کو علامتِ نفاق قرار دیا۔

لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْعَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ۔

☆ آپ ﷺ کو اپنے مبارک کندھوں پر سواری کا شرف بخش کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک صاف فرمایا۔ سیدنا علی المرتضی (ؑ) نے اپنی کیفیت یہ بتائی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ آسمان کے کنارے میری پہنچ میں تھے۔ (یعنی اگر میں چاہتا تو اُفق آسمان کو چھو لیتا۔)

اصْعَذْ عَلَى مَنْكَبِي..... إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَى أَنَّ لَوْشِنَتُ لَنِلْتُ أَفَقَ السَّمَاءِ

☆ آپ ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا (ؑ) کو امت کی موسیٰ خواتین کی سردار قرار دیا۔

أَمَا تَرْضِيهِنَّ أَنْ تَكُونَنِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ۔

☆ سیدنا علی المرتضی ع کے جگہ پاروں سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہما کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور مزید ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے بھول بیں۔
الْحَسَنُ وَالْحَسِينُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔
.....رَبَّخَانَتِي مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا۔

☆ آپ علیہ السلام کے قاتل کو نبی کریم ﷺ کا نات کا بد بخت ترین شخص قرار دیا۔
قارئین کرام! میں نے محولہ بالا تمام احادیث اسی کتاب سے اس ابتدائی میں پیش کی ہیں جو کہ تمام صحیح یا حسن ہیں۔ انتہائی فرحت و سرت کی بات ہے کہ اس عظیم کتاب کا انتہائی سلیس، شستہ اور رووال ترجمہ کر دیا گیا ہے، جس کی سعادت درجنوں کتب کے مترجم و مؤلف جناب نوید احمد ربانی نے حاصل کی۔ ترجمہ کی سلاست و روانی اور برجستگی اتنی دل کش ہے کہ قاری ذرہ ہر ابرا کتابہ محسوس نہیں کرتا اور ایک ہی نشست میں کئی صفحات پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس پر مستززادیہ کے نامور محقق، ماہر علم اصول حدیث، استاذ الحدیث جناب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری بنے دیدہ ریزی اور محنت شاقہ سے احادیث کی تحریج و تحقیق کر کے علمی فوائد بھی رقم فرمادیئے ہیں۔ ہر چند یہ کام انتہائی محنت طلب اور دشوار تھا لیکن انہوں نے اسے بڑی خوش اسلوبی سے سراجاں دیا، جس پر وہ بجا طور پر لائق تحسین و آفرین ہیں۔

پاکستان کا معترض اور موقر اشاعتی ادارہ ”بک کارز جہلم“ اسے شائع کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ کتاب کی کپوزنگ سے لے کر طباعت و اشاعت کے جملہ مراحل انتہائی ذمہ داری سے ادا کیے گئے۔ دیدہ زیب سرورق، مضبوط اور معیاری جلد اور خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس پر ادارہ کے بانی جناب شاہد حمید اور ان کے فرض شناس و مخلص صاحبزادگان گلگن شاہد اور امر شاہد مبارک باد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت تامہ عطا کر کے عوام و خواص میں شرف پذیرائی بخشے۔

آمین !!!

پروفیسر سید امیر کھوکھر

امام نسائیؓ کے حالاتِ زندگی

نام و کنیت

احمد بن شعیب بن علی بن سنان النسائی اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔

ولادت

امام نسائیؓ ۲۱۵ھ میں ”خراسان“ کے ایک مشہور شہر ”نساء“ میں پیدا ہوئے۔

(تمذکرة الحفاظ للذہبی: 698)

تصانیف

آپؓ کی چند مشہور تصانیف کے نام درج ذیل ہیں:

-1 السنن الکبریٰ

یہ امام نسائیؓ کی سب سے مشہور کتاب ہے جس میں آپؓ کی اکثر کتب بھی درج ہیں ان کو ذیل میں رقم کیا جا رہا ہے۔

1 خصائص علی بن ابی طالبؓ

الله رب العزت کی خاص توفیق کے ساتھ اس کتاب کو ادارہ بک کارز شوروم نے اپنے خاص

روایت انداز میں پہلی مرتبہ تحقیق و تخریج اور علمی فوائد کے اعلیٰ معیار کے ساتھ شائع کیا ہے اور سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کے بارے میں تحقیقی اور علمی معلومات کا بیش بہا خزانہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

- | | |
|---------------------------|---|
| عمل اليوم والليلة للنسائي | 2 |
| فضائل القرآن للنسائي | 3 |

مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے الحافظ، شیخ الاسلام، ناقد الحدیث، صاحب السنن الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی (215-303ھ) نے ”فضائل القرآن“ کے نام سے موسم مجموعہ پیش کیا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع میں جامع اور انتہائی مفید ہے۔ امام نسائی (215-303ھ) نے قرآن مجید کے بارے میں بنیادی معلومات جمع کی ہیں۔ یہ کتاب ادارہ بک کارز جہلم کے خاص اشاعتی انداز میں علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری علیہ السلام کی نہایت شاندار تحقیق و تخریج، علمی فوائد اور اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

- | | |
|-----------------------|---|
| فضائل الصحابة للنسائي | 4 |
|-----------------------|---|

یہ کتاب ادارہ بک کارز جہلم کے خاص اشاعتی انداز میں نہایت شاندار تحقیق و تخریج اور علمی فوائد کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ جس میں اکابر [71] صحابہ کرام کا لشیں اور ایمان افرزو زندگہ امام نسائی (215-303ھ) نے بڑے مختصر انداز میں پیش کیا ہے۔ بلا مبالغہ یہ کتاب اپنے موضوع میں سب سے جامع ہے۔ کتاب بذاتی میں کل دوسوچوراہی [284] احادیث ہیں۔ ان میں ہمارے محترم محقق فضیلۃ الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری علیہ السلام کی تحقیق کے مطابق دو سو چھیساں [266] احادیث صحیح ہیں اور ان میں اکثر احادیث صحیح بخاری و مسلم کی ہیں۔ باقی صرف اٹھارہ [18] روایات سنداً کمزور ہیں۔

- | | |
|--------------------|---|
| عشرۃ النساء | 5 |
| الجمعة للنسائي | 6 |
| وفاة النبي للنسائي | 7 |

- مذکورہ بالا کتاب میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”السنن الکبریٰ“ میں درج ہیں:
- 2 السنن الصغری [المجتبی]
 - 3 تفسیر النسائی
 - 4 الضعفاء والمتروکون للنسائی
 - 5 الطیقات للنسائی
 - 6 تسمیة فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و من بعدهم
 - 7 تسمیة من لم يربو عنه غير رجل واحد
 - 8 جزء فيه مجلسان من إملاء النسائی
 - 9 اسئلة للنسائی في الرجال
 - 10 ذكر المدلسين

اہل علم کے نزدیک مقام و مرتبہ

اللہ رب العزت نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے مرتبے پر فائز کیا تھا۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کریں، تو مقدم کون ہوگا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا:

فإنه لم يكن مثله أقدم عليه أحدا ولم يكن في الورع مثله

”ان کے ہم پلہ کوئی نہیں، ان کے معاصرین میں کوئی بھی ان سے مقدم نہیں ہے، نہ ورع و تقوی میں کوئی ان کا ہم مثل ہے۔“

[سوالات اسہی: 111]

حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

النسائی إمام حجۃ في الجرح والتعديل

”امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جرح و تعدیل میں جوت ہیں۔“

[مقدمة ابن الصلاح، ص: 493]

حافظ مزمزی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کہتے ہیں:

اُحد الائمه المبرزین والحافظ المتقنین والأعلام المشهورین.

”چوٹی کے انہے، پختہ کار حفاظ اور مشہور علمائے کرام میں سے ایک ہیں۔“

[تَبْذِيبُ الْكِمالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: 1/329]

حافظ ذہبی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ آپ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کی سوانح حیات کو ”سیر اعلام النبلاء“ میں ان الفاظ کے ساتھ شروع

کرتے ہیں:

الإمامُ الْحَافِظُ النَّبِيُّ، شِيْخُ الْإِسْلَامِ، نَاقِدُ الْحَدِيثِ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْمَدُ بْنُ شَعْبَنِ بْنِ عَلَىٰ بْنِ سَيَّنَانَ بْنِ بَحْرِ الْخَرَاسَانِيُّ، السَّائِئُ، صَاحِبُ السُّئَنِ۔

[سیر اعلام النبلاء: 14/126]

مزید لکھتے ہیں:

وَكَانَ مِنْ بُحُورِ الْعِلْمِ، مَعَ الْفَهْمِ، وَالْإِثْقَانِ، وَالْبَصَرِ، وَنَفْدِ الْرِّجَالِ، وَخُسْنِ التَّأْلِيفِ. جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فِي خُرَاسَانَ، وَالْحِجَازِ، وَمِصْرَ، وَالْعِرَاقِ، وَالْجَزِيرَةِ، وَالشَّامِ، وَالثُّغُورِ، ثُمَّ اسْتَوْطَنَ مِصْرَ، وَرَحَلَ الْحُفَاظَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَنْقَلِ لَهُ نَظِيرٌ فِي هَذَا الشَّأنِ.

”آپ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فہم و اتقان اور بصیرت میں علم کے سمندر، ناقد الرجال اور اچھے قلم کار تھے، آپ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نے طلب علم کے لیے خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزیرہ، شام اور شغور کا سفر کیا پھر آخرين میں سکونت پذیر ہو گئے، حدیث کے حفاظ نے طلب علم کے لیے آپ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کی طرف رخ کیا۔ اس شان و عظمت میں آپ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کا کوئی ثانی نہیں۔“

[سیر اعلام النبلاء: 14/126]

الغرض امام نسائیؓ کے کمال و فضل کا اعتراف جملہ محدثین اور اصحاب الطبقات کے ہاں مسلم ہے۔ جرح و تعدیل کا علم ہو یا علم حدیث امام نسائیؓ اس میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔

حافظ ابن کثیرؓ کتبے میں:

وَكَذَلِكَ أَثْنَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ وَشَهَدُوا لَهُ بِالْفَضْلِ
وَالثَّقَدُمُ فِي هَذَا الشَّأنِ.

”اسی طرح بہت سے ائمہ حدیث نے آپؓ کی تعریف کی ہے اور حدیث کے معاملہ میں آپؓ کے فضل اور برتری کی شہادت دی ہے۔“

[المبدایہ والنهایہ: 11/140]

امام نسائیؓ کی وفات

آپؓ کی وفات ۳۰۳ ہجری میں ہوئی۔

باب 1 حديث رقم 8391 تا 8584 ملک۔ احادیث = 194
www.AhleSunnatPak.com

ذِكْرُ خَصَائِصِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذِكْرُ صَلَاتِهِ قَبْلَ

النَّاسِ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خصائص کا ذکر جمیل اور ان کا اس امت میں تمام لوگوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان

۱۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّفَّقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهْيَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ الْعُرَنَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

۲۔ حبہ عرنی سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: [پھر میں] سب سے پہلے میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

اس روایت کی سند میں حبہ بن جوین عرنی جمہور محدثین کے نزدیک "ضعیف" ہے۔

حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ضعفہ الجمهور۔

"جمہور نے اسے ضعیف کہا ہے۔"

[التفیید والایضاح: 311]

حافظ یعنی سیاست فرماتے ہیں:

وقد ضعفہ الجمہور۔

” بلاشبہ جمہور محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔“

[مجموع الزوائد: 46/5]

حافظ سیوطی سیاست فرماتے ہیں:

وحبة ضعفہ الاکثر۔

” اکثر محدثین نے حبہ کو ضعیف کہا ہے۔“

[اللائل المصنوعة: 1/295]

جورا وی جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہواں کی روایت ضعیف اور ناقابل جست ہوتی

ہے۔

تخریج:

مصنف ابن ابی شیعۃ: 65/12؛ مسن الامام احمد: 141/1

۲۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَيْأَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ»

۲۔ سیدنا زید بن ارقم رض نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سب سے پہلے سیدنا علی رض نے نماز پڑھی ہے۔

تحقیق:

[اسنادہ حسن]

تخریج:

مسند الطیاری: 678؛ مسن الامام احمد: 370/4

ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ عَنْ شُعْبَةَ

اس خبر کو امام شعبہ سے بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی) اختلاف

- 3۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّهَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّادٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»
- 3۔ سیدنا زید بن ارقم رض نے فرمایا: [پھوس میں] رسول اللہ ﷺ پر سب سے پہلے سیدنا علی رض اسلام لائے۔

تحقیق:

[اسنادہ حسن]

تخریج:

- مند الامام احمد: 368/4, 371؛ سنن الترمذی: 3735 و قال: حسن صحیح؛ المستدرک للحاکم: 136؛ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح الاستاد کہا اور حافظہ ہی نے ان کی موافقت کی ہے۔
- 4۔ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ إِذْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّادٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَيِّ»

۳۔ سیدنا زید بن ارقم رض نے فرمایا: [پھر میں میں] سب سے پہلے سیدنا علی رض نے اسلام قبول کیا۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد حسن]

۵۔ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ. عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْعَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ أَزْقَمَ يَقُولُ: «أَوْلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ» وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ أَخَرَ: «أَسْلَمَ عَلَيْهِ»

۵۔ ابو حمزہ مولیٰ النصار سے روایت ہے کہ میں نے سا سیدنا زید بن ارقم رض فرمائے تھے: سب سے پہلے [پھر میں] سیدنا علی رض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایک دوسرے مقام پر انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے سیدنا علی رض نے اسلام قبول کیا۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد حسن]

اس کی سند حسن ہے مگر یہ روایت صحیح ہے۔

فائدہ:

مندالامام احمد [141/1] وغیرہ میں جو سیدنا علی رض کا قول ہے:
انا اول رجل صلی مع رسول الله ۔

”میں پہلا مرد ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔“

اس کی سند ضعیف ہے، حبہ بن جوین راوی ضعیف ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 1 کے تحت اس راوی پر گزر چکی ہے۔

سنن الترمذی: [3728] میں سیدنا انس رض سے مروی ہے کہ سیدنا علی رض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ منگل کے روز نماز پڑھی۔ لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اس میں علی بن عابس راوی ضعیف ہے۔

[تقریب التعبد یہ لابن حجر: 4757]

نیز اس میں مسلم بن کیسان الملائی راوی بھی جمورو محمد شین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اسی طرح **المجمع الکبیر للطبرانی** [952] والی روایت کی سند بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں تجھی بن عبدالحمید الحمامی اور محمد بن عبد اللہ بن ابی رافع دونوں راوی جمورو محمد شین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ مسند ابی یعلیٰ [446] کی سند بھی سخت ضعیف ہے، سلیمان بن قرم، مسلم بن کیسان الملائی اور حبہ بن جوین تینوں راوی جمورو محمد شین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رض سے مردی ہے: سیدنا عباس بن عبداللطیب رض نے ایک سوال کے جواب میں کہا: یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے اور اس کے ساتھ جو لڑکا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے اور جو خاتون ہے وہ خدیجہ بنت خولید ہے، خدا کی قسم! روئے زمین پر ان تینوں کے سوا اور کوئی شخص نہیں ہے جو اس دین کا پیر و کار ہو۔

[المجمع الکبیر للطبرانی: 10397]

اس میں بشر بن مهران راوی ہے جس کے بارے میں امام ابن حاتم رازی رض فرماتے ہیں:

وترك حدیثه وامرني ان لا اقرا عليه حدیثه۔

”اس کی حدیث کو چھوڑ دیا گیا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے سامنے حدیث بیان نہ کروں۔“

[الجرج والتتعديل: 379/2]

اس میں شریک بن عبداللہ القاضی راوی مدرس اور سی اخظف موجود ہے۔ لہذا یہ روایت باطل

ہے۔

6۔ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حُقَيْمٍ، عَنْ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَفِيفٍ، عَنْ عَفِيفٍ قَالَ: جِئْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى مَكَّةَ، فَرَأَيْتُ عَلَى الْعَبَادَسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمَّا أَرْتَقَعَتِ الشَّمْسُ،

وَحَلَقَتْ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ أَقْبَلَ شَابٌ، فَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَامَ مُسْتَقْبِلًا، فَلَمْ يَلْبِسْ حَتَّى جَاءَ غُلَامٌ، فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَلْبِسْ حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَامَتْ خَلْفَهُمَا، فَرَكَعَ الشَّابُ، فَرَكَعَ الْغُلَامُ وَالْمَرْأَةُ، فَرَفَعَ الشَّابُ، فَرَفَعَ الْغُلَامُ وَالْمَرْأَةُ، فَخَرَّ الشَّابُ سَاجِدًا، فَسَجَدَا مَعَهُ قَوْلُتُ: يَا عَبَاسُ «أَمْرُ عَظِيمٍ» فَقَالَ لِي: أَمْرُ عَظِيمٌ؟ فَقَالَ: «أَتَدْرِي مَنْ هَذَا الشَّابُ؟» قَوْلُتُ: لَا فَقَالَ: "هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، هَذَا ابْنُ أَخِي، وَقَالَ: «تَدْرِي مَنْ هَذَا الْغُلَامُ؟» قَوْلُتُ: لَا قَالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، هَذَا ابْنُ أَخِي «هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي خَلْفَهُمَا؟» قَوْلُتُ: لَا قَالَ: «هَذِهِ حَدِيجَةُ ابْنَةِ حُوَيْلٍ زَوْجَهُ ابْنُ أَخِي» هَذَا حَدِيفَيْ «أَنَّ رَبَّكَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمْرَهُ هَذَا الدِّينُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، وَلَا وَاللَّهِ مَا عَلَى ظَهِيرِ الْأَرْضِ كُلُّهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هُوَ لَاءُ الْثَّلَاثَةِ»

۶۔ سیدنا عفیف رض سے روایت ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ آیا۔ سیدنا عباس بن عبدالمطلب رض کے ہاں (بطور مہمان) پھر، جب سورج بلند ہوا، اس نے آسمان پر ایک دائرہ بنالیا، میں اس وقت خانہ کعبہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا جو اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا پھر وہ کعبہ کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، ابھی تھوڑا ہی وقت گزر اس کے بعد ایک عورت آئی، وہ آکر اس (نوجوان) کی دامیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے پیچے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نے رکوع کیا تو اس پیچے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سراخھایا۔ اس پیچے اور عورت نے بھی سراخھایا۔ نوجوان سجدہ کرتے ہوئے پیچے جھکا تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا: اے عباس! یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ [یعنی حیران کرن معاملہ ہے] انہوں نے مجھے فرمایا: اس میں حیرانگی والی بات کوئی ہے؟ پھر فرمایا: کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں، انہوں نے کہا: یہ میرے بھائی کے بیٹے محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہیں (ساتھ فرمایا) کیا تم اس پیچے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں، انہوں نے فرمایا: یہ میرے بھائی کے بیٹے علی بن ابی

طالب بن عبد المطلب رض ہیں۔ پھر فرمایا: کیا تم اس عورت کو جانتے ہو جوان دونوں کے پیچھے کھڑی تھی؟ میں نے کہا: نہیں، انہوں نے فرمایا: یہ میرے سنتیج (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی زوج محترمہ خدیجہ بنت خویلد رض ہیں۔ یہ (نوجوان) مجھے بیان کرتا ہے کہ آپ کارب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ جس دین پر وہ قائم ہیں، اسی ذات نے ان کو اس دین کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی قسم! تمام روئے زمین میں ان تینوں کے علاوہ کوئی اس دین پر نہیں ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

ابن یحییٰ بن عفیف محبول راوی ہے۔ اس کا باپ یحییٰ بن عفیف بھی محبول اور غیر معروف ہے۔ اس کے بارے میں حافظہ ہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لا یعرف

”یہ محبول راوی ہے۔“

[میزان الاعتدال: 4/396؛ الحسن بن القعناء: 2/741]

نیز محبول بھی کہا ہے۔

[دیوان الحسن بن القعناء: 4665]

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مقبول [محبول الحال] کہا ہے۔

[تقریب التہذیب: 7609]

سوائے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ الثقات: 5/521 کے کسی نے اس کی تو شیق نہیں کی۔

اس کا بند حسن ایک شاہد [السیرۃ لابن اسحاق ص: 119؛ منداد امام احمد: 1/209؛

المستدرک للحاکم: 3/183] میں آتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ ہیں:

وَلَمْ يَتَبَعِهُ عَلَى أَمْرِهِ إِلَّا امْرَأَتُهُ، وَابْنُ عَمِّهِ هَذَا الْفَتَّى

”اس معاملے میں صرف ان کی بیوی اور اس چپاز ادنو جوان نے پیروی کی ہے۔“

صحیح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے منکر ہیں۔ اس کے راوی اسماعیل بن ایاس الکندی کے بارے میں امام بخاری رض فرماتے ہیں:

فی حدیثه نظر
”اس کی اس حدیث میں منکر الفاظ ہیں۔“

[التاریخ الکبیر: 1/345]

دوسرے راوی ایاس بن عفیف کے بارے میں فرماتے ہیں:

فیه نظر
”یہ منکر حدیثیں بیان کرتا ہے۔“

[التاریخ الکبیر: 1/441]

7 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْيِضُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمُهَبَّالِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ، لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَاذِبٌ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ»

۔ عباد بن عبد الله رض سے روایت ہے کہ سیدنا علی الرضا رض نے فرمایا: میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں۔ میرے بعد کوئی جھوٹی اس بات کی تکذیب کرے گا۔ میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔

تحقیق:

[منکر]

یہ منکر قول ہے اس کے بارے میں احمد بن حنبل رض فرماتے ہیں:

ا ضرب علیہ، فانه حدیث منکر۔

”یہ قول اس کے منہ پر مار دو کیونکہ یہ حدیث منکر ہے۔“

(امتحب من اعلل للخلال لابن قدمة المقدسي: 114)

حافظ عقیل بن حنبل فرماتے ہیں:

”الرواية في هذا فيها لين۔“

”اس روایت میں کمروری ہے۔“

[الضعفاء الكبير: 137/3]

حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ”موضوع“ (من گھڑت) کہا ہے۔

[الموضوعات: 341/1]

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”هو كذب ظابر“

”یہ واضح جھوٹ ہے۔“

(منهج السنة: 199/4)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”هذا كذب على على۔“

”یہ سیدنا علیؑ پر جھوٹ ہے۔“

[میران الاعتدال: 368/2]

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”هذا الحديث منكري كل حال، ولا يقولها على و كيف يمكن ان“

”يصلى قبل الناس بسبع سنين؟ وبذا لا يتصور اصلاً۔“

”ہر صورت میں یہ روایت منکر ہے، سیدنا علیؑ نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا علیؑ نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہو۔ اس روایت کی بنیاد کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔“

(البداية والنهاية: 26/13)

جب امام حاکم رض نے اس روایت کو ”صحیح علی شرط الشیخین“ کہا تو ان کے تعاقب و رد میں حافظ ذہبی رض نے لکھا:

”کذا قال له، وهو ليس على شرط واحد منهما بل ولا يصح بل

حدیث باطل فتدبر“

”اما حاکم رض نے جس طرح کہا ہے کہ یہ روایت الشیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ مگر حقیقت میں یہ روایت ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ روایت صحیح ہی نہیں ہے، مزید برا آں یہ روایت باطل ہے۔ اس بات کو توجہ سے کچھ لیجھیں۔“

اس کے منکر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی رض سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رض کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رض ایمان لائے، غلاموں میں سیدنا زید رض اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبری رض سب سے پہلے ایمان لائیں، نبوت کے چھٹے سال سیدنا عمر فاروق رض ایمان لائے، بھری کہنا کیسے ممکن ہے کہ لوگوں سے سات سال پہلے میں نے نماز ادا کی۔

جیسا کہ حافظ ابن کثیر رض فرماتے ہیں:

”وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْغُلْمَانِ. كَمَا أَنَّ خَدِيجَةَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَتْ مِنَ النِّسَاءِ. وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمَوَالِيِّ. وَأَبُو بَكْرِ الصَّدِيقِ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْأَخْرَارِ. وَكَانَ سَبَبُ إِسْلَامِ عَلَيِّ صَغِيرًا أَنَّهُ كَانَ فِي كَفَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

”صحیح بات یہ ہے کہ سیدنا علی رض بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، جیسا کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رض، غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید

بن حارثہ رض، آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رض اسلام لائے اور چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رض کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے۔

[البداية والنهاية 7/220]

شبیہ:

عبد بن عبد اللہ الاسدی راوی "حسن الحدیث" ہے۔

تخریج:

مصنف ابن ابی شہیۃ: 12/65؛ سنن ابن ماجہ: 120؛ السنۃ لابن ابی عاصم: 1324؛ المستدرک للحاکم: 111، 112/3

فائدہ:

سیدنا علی رض نے برسر منبر فرمایا:

انا الصدیق الاکبر آمنت قبل ان یومن ابو بکر و اسلمت قبل ان یسلم۔

"میں صدیق اکبر ہوں، میں ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لا یا اور ان کے اسلام لانے سے پہلے اسلام قبول کیا۔"

[تاریخ دمشق لابن عساکر: 14/32, 33]

یہ غیر ثابت قول ہے۔ سلیمان بن عبد اللہ ابو فاطمہ کی امام ابن حبان [الشفقات: 6/384] کے علاوہ کسی نے تو شیئ نہیں کی۔ نیز اس کا معاذہ عدو یہ سے ساعت ثابت نہیں۔

حارث بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رض کو فرماتے ہوئے سنا:

"مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رض اسلام لائے اور جس نے قبلہ رخ ہو کر

سب سے پہلے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدنا علیؑ ہیں۔“

[اکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی: 65/2؛ تاریخ دمشق لابن عساکر: 42/33]

اس کی سند سخت ضعیف ہے، اس کا راوی بہلوں بن عبید [عبدالله؟] ضعیف ہے۔

ابو اسحاق سہیق مختلط اور مدرس ہیں۔ حارث بن عبد اللہ بن الاغور جمہور محمد شین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔

الاباطیل والمنا کیر للجورقانی [145] کی سند میں محمد بن سلمہ بن کہمیل اور حبہ بن جوین دونوں راوی جمہور محمد شین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ لہذا سیدنا علیؑ کا سیدنا ابو مُبَرَّ صدیقؓ سے پہلے ایمان لانا ثابت نہ ہوا۔

ذِكْرُ عِبَادَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

سیدنا علی المرتضیؑ کی عبادت کا بیان

8۔ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْدِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَذَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَا أَغْرِفُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدَ اللَّهِ بَعْدَ نَيْتِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِيِّي، عَبَدَتُ اللَّهَ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِسَبْعِ سِنِينَ»

8۔ عبد اللہ بن ابی هذیلؓ سے روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیؑ نے فرمایا: میں اللہ کے کسی بندے کو نہیں جانتا کہ نبی کریم ﷺ کے علاوہ جس نے مجھ سے پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہو۔ میں نے اس امت کے ہر شخص سے سات سال پہلے التدریب العزت کی عبادت کی ہے۔

نوث:

نَصَاصٌ سیدنا علی شِفْوَةِ بعضِ نَحْوِيْنَ میں سات کی بجائے نو کے الفاظ ہیں۔

تحقیق و تخریج:

[اسناده حسن و امتن مکفر]

اس روایت کی سند میں اجلج بن عبد اللہ الکندي راوی جمیع محدثین کے نزدیک "حسن الحدیث" ہے۔

حافظہ شیخی ہے فرماتے ہیں:

”والاکثر علی توثیقہ۔“

”اکثر محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔“

(جمع الزوارائد: 189/1)

حافظہ شیخی ہے فرماتے ہیں:

”هذا باطل لأن النبي من اول ما أوحى اليه آمن به خديجة. وابو بكر. و بلال. و زيد مع على قبله بساعات. او بعده بساعات. وعبدوا الله معنبيه، فain السبع سنين؟، ولعل السامع اخطأ فيكون امير المؤمنین قال: عبدت الله مع رسول الله ولی سبع سنين ولم يضبط الرواى ما سمع ثم حبة شيعي جبل قد قال ما يعلم بطلانه من ان عليا صفين ثمانون بدریا“

”یہ باطل روایت ہے، کیونکہ جب نبی کریم ﷺ پر پہنچی وحی کا نزول ہوا اس سے کچھ دیر بعد سیدہ خدیجہ، سیدنا ابو بکر صداق، سیدنا بال، سیدنا زید اور سیدنا علیؑ کے ایمان لائے، ان سب نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی، تو یہ سات سال کہاں سے آگئے؟۔ شاید یہ سننے والے راوی حبہ عربی نے نظری کی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علیؑ نے یہ کہا ہوگا: میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، میں اس وقت سات سال کا تھا۔ راوی نے جو سنا، اس کو صحیح سے یاد نہیں رکھ سکا۔ ویسے بھی حبہ عربی کٹر شیعہ ہے۔ اس نے وہ بات بھی کہی ہے کہ جس کا بطلان جان لیا گیا ہے کہ جنگ صفين میں سیدنا علیؑ کے ساتھ ۸۰ بدری صحابی تھے۔“

(تلخیص المستدرک: 3/113)

تئبیہ:

مندا لام احمد (1165، 1166) وغیرہ میں اس کی دوسری سند بھی ہے، اس میں سید بن سلمہ بن کہیل راوی "متروک" ہے اور حبہ بن جوین عربی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اس طرح متدرک حاکم (112/3) کی سند میں حبہ بن جوین عربی ضعیف ہے۔ زوائد الفضائل لعبدالله بن احمد (1165، 1166) والی سند میں جابر جھنی "متروک" ہے، اس میں "سات" کی بجائے "تین سال" کا ذکر ہے۔

ذِکْرُ مَنْزِلَةِ عَلِیٍّ بْنِ اَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

در بارِ الٰہی میں سیدنا علی المرتضیؑ کا مقام

9۔ اخْبَرَنِي هَلَانُ بْنُ يَسْرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ. وَهُوَ ابْنُ عَثِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ بْنِتِ سَعْدٍ. قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُحْفَةِ وَأَخَذَ بَيْدَ عَلَيْهِ فَخَطَبَهُ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَهَا النَّاسُ «إِنِّي وَلِيُّكُمْ» قَالُوا: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ أَخَذَ بَيْدَ عَلَيْهِ فَرَفَعَهَا وَقَالَ: «هَذَا وَلِيَّ وَالْمُؤْدِي عَنِّي، وَإِنَّ اللَّهَ مُوَالٍ مَنْ وَالَّهُ، وَمُعَادٌ مَنْ عَادَ إِلَّاهُ»

9۔ سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ میں نے جھفہ کے دن رسول اللہ ﷺ سے سن، آپ ﷺ نے سیدنا علیؑ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ رب العزت کی حمد و شابیان کی پھر فرمایا: اے لوگو! (کیا) میں تم سب کا ولی (دost) ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے سچ فرمایا: پھر آپ ﷺ نے سیدنا علیؑ کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا: یہ میرا ولی (دost) ہے اور یہ میری ذمہ داری کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا ولی (دost) بنائے گا جو اس کو اپنا ولی (دost) بنائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا شمن بنائے گا جو اس کو اپنا شمن بنائے گا۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ حسن]

موسیٰ بن یعقوب بن عبد اللہ الازمی جمہور محدثین کے نزدیک "حسن الحدیث" راوی ہے۔
 10۔ اَخْبَرَنِی زَكَرِيَا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْهِرٌ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ طَائِرٌ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمَرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَذِنَ لَهُ سیدنا انس بن مالک رض سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرنده (پکا ہوا) تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ! اپنے اس بندے کو بچھ دے جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ میرے ساتھ آ کر اس پرندے کو کھائے تو سیدنا ابو بکر رض تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بچھ دیا پھر سیدنا عمر رض آئے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بچھ دیا پھر سیدنا علی رض تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف و منکر]

اس کا ایک راوی مسہر بن عبد الملک "لین الحدیث" ہے۔

(تقریب التہذیب لابن حجر: 6667)

اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"فیه بعض النظر"

"اس پر بعض محدثین نے کلام کی ہے۔"

(التاریخ الصغیر: 250/2)

امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ولمسہر غیر ما ذکرت، وليس بالكثير۔“

”مسہر کی اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کثیر الروایہ راوی نہیں ہے۔“

(الکامل فی الفحفاء، الرجال: 458/6)

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”الثقات“ (9/197) میں ذکر کر کے لکھا ہے:

”يَخْطُنُ وَيَبْهَمُ“

”یہ خطأ اور وهم کا شکار ہے۔“

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”لین“ کہا ہے۔

(المحتوى في سرداًكثني: 5419)

اسی طرح ”لیس بالقوی“ کہا ہے۔

(المغنى في الفحفاء: 2/406)

اسے واضح طور پر الحسن بن حماد رحمۃ اللہ علیہ الوراق نے ”شقة“ کہا ہے۔

(منداری یعنی: 4052؛ الكامل فی الفحفاء، الرجال لابن عدی: 6/457، وسندہ صحیح)

جہور محدثین نے اس روایت کو ”ضعیف“ کہا ہے، ابل علم کے ہاں یہ روایت ”حدیث الطیر“ کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بہت سارے طرق ہیں مگر وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں۔
 11- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: أَمْرَ مُعَاوِيَةَ سَعْدًا، فَقَالَ: ”مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْبِّ أَبَا تُرَابٍ؟“ قَالَ: أَمَا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانَ أَشْبَهُهُ، لَكُنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرَ النَّعْمٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ وَخَلْفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ «تُخَلِّفُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبَّانِ؟» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي؟» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِي يَوْمِ خَيْرٍ: «لِأَعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» فَتَطَافَلُنَا لَهَا، فَقَالَ: «اذْعُوا لِي عَلَيْاً» فَأَنِّي بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِيهِ، وَدَفَعَ الرَّأْيَةَ إِلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَّلَتْ، رَأَدْ هِشَامٌ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْذِهَنَّ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: 3] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْاً، وَفَاطِمَةَ، وَحَسَنَةَ، وَحُسَيْنَاً فَقَالَ: «اللَّهُمَّ، يَعْنِي هُؤُلَاءِ أَهْلِي»

۱۱۔ عامر بن ابی و قاص جعشنی سے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی شوشیگ نے سیدنا سعد بن ابی و کھدا کو حکما کہا: آپ کو کوئی بات روکتی ہے کہ آپ ابوتراب (سیدنا علی المرتضیؑ کی کنیت) کی تنقیص نہیں کرتے؟ سیدنا سعد بن ابی شوشیگ نے کہا: جب تک مجھے وہ تمین باقی یاد ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق فرمائی ہیں، میں ہرگز ان کی تنقیص نہیں کروں گا۔ ان میں سے کسی ایک (فضیلت) کا بھی میرے حصہ میں آ جانا، مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے سنار رسول اللہ ﷺ فرمائے تھے، جب سیدنا علیؑ کی غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، سیدنا علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرمایا: کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰؑ کو ہارونؑ کے ساتھ تھی گھر میرے بعد بنت نہیں ہے۔ میں نے سنا آپؑ خیر کے دن (ان کے بارے میں) فرمائے تھے: کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے جھنڈے کے ملنے کی امید رکھی گراں آپؑ نے فرمایا: علیؑ کو میرے پاس بلو، انہیں لا یا گیا وہ اس وقت آشوب چشم میں بتلا تھے۔ آپؑ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن دالا اور جھنڈا ان کو عطا فرمایا۔

ہشام راوی نے ان الفاظ کو زیادہ کیا: جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: "اللَّهُ يَهِيْ چاہتا ہے کہ اے بنی کے اہل بیت! تم سے (ہر قسم کی) گندگی کو دور کر دے۔" [سورة الأحزاب: ۳۳] تو رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و سیدنا حسینؑ کو بالا کر فرمایا: اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 2404

12- أَخْبَرَنَا حَرْمَيُّ بْنُ يُونُسَ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامَ، عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَتَنَقَصُوا عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ خِصَالٌ ثَلَاثَةُ، لَأَنَّ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ. سَمِعْتَهُ يَقُولُ: «إِنَّهُ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَازِنَوْنَ مِنْ مُوسَى. إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: «لِأَغْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيَّ مَوْلَادُهُ»

12- سیدنا سعد بن ابی وقادشؓ سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ سیدنا علیؓ کی تنقیص کرنے لگے۔ میں نے کہا: بلاشبہ میں نے رسول اللہؓ سے ان کی تین ایسی خصلاتیں سنی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی میرے حصہ میں آجائنا، مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

میں نے سنا آپؓ ان کے بارے میں فرمائے تھے: تمہرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیؑ کو ہاروںؑ کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

میں نے سنا، آپؓ ان کے بارے میں فرمائے تھے: کل میں جنہذا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔

میں نے سنا، آپؓ ان کے بارے میں فرمائے تھے: جس کا میں مولیٰ (دوست) اس کا علی مولیٰ (دوست) ہے۔

تحقیق:

[اسنادہ ضعیف لانقطاعم]

امام تیجی بن معینؓ فرماتے ہیں:

”عبد الرحمن بن سابط نے سیدنا سعد بن ابی وقارؓ سے حدیث نہیں سنی۔“

(تاریخ تیجی بن معین برداشتہ الدوری: 2/348)

اس لیے حافظ ابن کثیرؓ (البداۃ والنهاۃ: 7/341) کا اس روایت کی سند کو ”حسن“ کہنا صحیح نہیں ہے۔

تخریج:

سنن ابن ماجہ: 121

13۔ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَاوْفَدَ، عَنْ عَنْدِ الْوَاجِدِ بْنِ أَيْمَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَذْفَعَنَ الرَّأْيَةَ غَدًا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، يَقْتَلُ اللَّهُ عَلَى يَدِيهِ» فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُهُ فَدَفَعَ إِلَى عَلَيٍّ

13۔ سیدنا سعد بن ابی وقارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کل میں جنہا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر (مسلمانوں کو) فتح دے گا۔ تمام صحابہ کرام اس کے خواہشمند ہوئے تو آپ ﷺ نے (وہ جنہا) سیدنا علیؑ کو عطا فرمایا۔

تحقیق تخریج:

[اسنا: ضعیف لانقطاعی]

ایک جوشی کا سیدنا سعد بن ابی وقارؓ سے سمار عنہیں ہو سکا۔

14۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْيَنْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْحَكَمِ، وَالْمُهَابِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلَيٍّ وَكَانَ

يَسِيرُ مَعَهُ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا مِنْكَ أَنَّكَ تَخْرُجُ فِي الْبَرِّ فِي الْمُلَائِكَةِ، وَتَخْرُجُ فِي الْحَرَّ فِي الْحَشْوِ، وَالثَّوْبِ الْغَلِيلِيْطِ» قَالَ: «أَوْلَمْ تَكُنْ مَعَنَا بِخَيْرٍ؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ وَعَقْدَ لَهُ لِوَاءَ فَرَجَعَ، وَبَعْدَهُ عُمَرَ وَعَقْدَ لَهُ لِوَاءَ فَرَجَعَ بِالنَّاسِ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُعْطَيْنَ الرِّزْقَيْةَ رَجُلًا يُعْبُثُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُجْبِهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرِارٍ» فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، وَأَنَا أَرْمَدُ قُلْتُ: «إِنِّي أَرْمَدُ، فَتَقَلُّ فِي عَيْنِي» وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اكْفِهِ أَذَى الْحَرَّ وَالْبَرِّ، فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا بَرًّا»

۱۲۔ عبدالرحمن بن أبي سلیل سے روایت ہے کہ میرے باپ سیدنا علیؑ کے ساتھ چل رہے تھے۔ میرے باپ نے پوچھا: لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سردیوں میں نرم و ملائم کپڑا اور گرمیوں میں موٹا اور سخت لباس پہنتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: کیا آپ ہمارے ساتھ خیر کے موقع پر نہیں تھے، میرے باپ نے عرض کیا: کیوں نہیں تو سیدنا علیؑ نے فرمایا: بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابو بکرؓ کو بھیجا ان کے لیے ایک جہنمڈ امقرر کیا تھا مگر وہ (بغیر فتح کے) لوث آئے۔ پھر سیدنا عمرؓ نے فرمایا: میں کے لیے ایک جہنمڈ امقرر کیا وہ بھی لوگوں کے ساتھ لوث آئے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: میں جہنمڈ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے میری طرف کسی کو بھیجا مگر میں آشوب چشم میں بتلا تھا تو آپ ﷺ نے میری آنکھ میں لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی۔ اے اللہ! علیؑ سے گرمی اور سردی کی تکلیف کو دور فرم۔ اس دن سے مجھے نہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور نہ سردی۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

محمد بن عبدالرحمن بن أبي سلیل جمہور محدثین کے نزدیک "ضعیف بسیع الحفظ" ہے۔

اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

سینی الحفظ لا يحتاج به عند اکثرهم۔

”یہی الحفظ راوی ہے، اکثر محدثین کے نزدیک اس سے جوت پکڑنی جائز نہیں
ہے۔“

[تحفة الطالب: 345]

حافظہ شیعی فرماتے ہیں:
فیہ کلام کثیر۔

”اس میں بہت زیادہ کلام کی گئی ہے۔“

[مجمع الزوائد: 2/213]

حافظ بوصری فرماتے ہیں:
ضعفہ الجمہور۔

”جمهور محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔“

[مصباح الزجاجة فی زوائد بن ماجة: 1/106؛ ح: 315]

تخریج:

- سنن ابن ماجة: 117؛ منند الامام احمد: 133, 99؛ امتدارک للحاکم: 3/37؛ و قال ”صحیح
الاسناد“ وافقه الذکری۔ هذَا اخْطَأوا الصَّوَابَ مَا قَنَّا۔
- 15۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيِّ بْنُ حَرْبِ الْمُزُوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعاَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرْيَنَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرْيَنَدَةَ يَقُولُ: حَاصِرَنَا حَيْبَرَ، فَأَخَذَ اللِّوَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَخَذَ مِنَ الْغَدِ عُمْرًا، فَانصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَصَابَتِ النَّاسَ يَوْمَنِي شِدَّةً وَجَهْنَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ دَافِعَ لِوَائِي غَدًا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ» وَيُثْنَا طَبِيبَةً أَنْفَسْنَا أَنَّ الْفَتْحَ غَدًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْغَدَاءَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا، وَدَعَا بِاللِّوَاءِ، وَالنَّاسُ عَلَى مَصَافِيهِمْ، فَمَا مِنَ اِنْسَانٍ لَهُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هُوَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْلِّوَاءِ، فَدَعَا عَلَيْهِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ أَرْمَدُ، فَتَفَلَّ فِي عَيْنِيهِ، وَمَسَحَ عَنْهُ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْلِّوَاءَ، وَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ قَالَ: «وَأَنَا فِيمَنْ تَطَوَّلَ لَهَا» ۖ

۱۵۔ سیدنا بریدہ بن بشیر سے روایت ہے کہ ہم نے خیبر کا محاصرہ کیا تو سیدنا ابوکبر بن بشیر جہنمدا پکڑ کر لکھ لیکن وہ اسے فتح نہ کر سکے پھر اگلے دن صبح سیدنا عمر فاروق بن بشیر جہنمدا پکڑ کر نکلے لیکن وہ بھی بغیر فتح کیے واپس لوٹ آئے۔ لوگوں کو اس دن بڑی سختی اور جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں جہنمدا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ فتح حاصل کیے بغیر ابیں نہیں پلٹے گا ہم نے پر سکون رات بسر کی کہ کل ضرور فتح نصیب ہوگی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی۔ نماز فجر ادا کی پھر کھڑے ہوئے۔ جہنمدا امگلوایا، لوگ اس وقت صفوں میں تھے۔ اس وقت ہم میں سے جس کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ مقام و منزلت حاصل تھی وہ یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ جہنمدا اسی کو دیا جائے گا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن بشیر کو بلا یا۔ وہ اس وقت آشوب چشم میں بتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن دہلا اور ان پر اپنا ہاتھ پھیرا پھر جہنمدا ان کو عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر [مسلمانوں کو] فتح عطا فرمائی۔ روایت سیدنا بریدہ بن بشیر کہتے ہیں: میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو اس [جهنمدا] کے امیدوار تھے۔

تحقیق و تخریج:

[منکر(ضعیف)]

یہ روایت منکر ہے کیونکہ اس روایت میں معاذ بن خالد شیق المروزی ”محبوب الحال“ ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ”الثقات“ (177/9) کے علاوہ کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (تقریب التہذیب: 6728) کا اسے ”صدق“ کہنا صحیح نہیں ہے۔ مند امام احمد (353/5) میں اس کی متابعت زید بن الحباب نے کرکھی ہے۔ حسین بن واقد مروزی بے شک ثقہ ہیں، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں:

”ما انکر حدیث حسین بن واقد وابی المنیب عن ابن بریدة۔“

”حسین بن واقد اور ابوالمنیب کی سیدنا عبد اللہ بن بریدہ سے روایت مکر ہے۔“

(اعلل و معرفۃ الرجال بروایۃ عبد اللہ: 1/239، ت: 1338)

یہ روایت بھی انہی سے ہے، اس میں سیدنا ابوکبر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رض کا ذکر ہے،

حالانکہ صحیح احادیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

16- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ. عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ بُرَيْدَةِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ حَيْثُ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ أَهْلِ خَيْرٍ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ الْلَّوَاءَ عُمَرَ، فَتَهَضَّ مَعَهُ مَنْ تَهَضَّ مِنَ النَّاسِ. فَأَقْفَوْا أَهْلَ خَيْرٍ، فَانْكَسَفَ عُمَرُ وَأَصْحَابُهُ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأُغْطِيَنَّ الْلَّوَاءَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ تَصَادَرَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَدَعَا عَلَيْهَا، وَهُوَ أَزَمْدُ، فَتَنَلَّ فِي عَيْنَيْهِ، وَتَهَضَّ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ مَنْ تَهَضَّ، فَلَقِيَ أَهْلَ خَيْرٍ، فَإِذَا مَرَحَبٌ يَرْتَجِزُ وَهُوَ يَقُولُ:

[البحر الرجز]

فَذْ عَلِمْتُ خَيْرَ أَبِي مَرْحَبٍ ... شَاكِي السَّلَاحِ بَطَّلْ مُجَرَّبُ
أَطْعَنْ أَحْيَانًا وَجِينًا أَضْرِبُ ... إِذَا الْلَّيُوْثُ أَقْبَلَ تَلَهُّبُ
فَاخْتَافَ هُوَ وَعَلَيْ ضَرَبَتِينِ، فَضَرَبَهُ عَلَيْ عَلَى هَامِتِهِ حَتَّى عَضَ السَّيْفَ
مِنْهَا أَبْيَضَ رَأْسِهِ، وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرَبَتِهِ، فَمَا تَنَامَ أَخِرُ النَّاسِ مَعَ عَلَيْ
فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ وَلَهُمْ

16- سیدنا بریدہ اسلامی رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب خیر پہنچ کر پڑا وہ الاتوسیدنا عمر فاروق رض کو جنہاً اعطافرمایا۔ کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تو اہل خیر کے ساتھ ان کا

آمنا سامنا ہوا، چنانچہ سیدنا عمر فاروق رض اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البتہ ضرور کل میں جھنڈا اس شخص کو دونوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جب اگلی صبح ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رض آگے بڑھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رض کو بلا یا اس وقت وہ آشوبِ چشم میں بتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن دالا، ان کو جھنڈا دیا اور کچھ لوگ ان کی معیت میں قفال کے لیے انہکھڑے ہوئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اہل خیر کے ساتھ ہوا۔ اچانک مرحبا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رجزیہ انداز میں یہ اشعار پڑھے:

اہل خیر مجھے جانتے ہیں کہ میں مرحبا ہوں، میں ایک ہتھیار والا اور تجربہ کار جنگجو ہوں۔ جب
شیر میری طرف دوڑتا ہے تو میں اس کو کبھی نیزہ مارتا ہوں اور کبھی تلوار سے حملہ کرتا ہوں۔

پھر دونوں کی ضربوں کے درمیان تصادم ہوا پس کیا ہوا کہ سیدنا علی رض نے اس کے سر پر دار کیا یہاں تک کہ تلوار اس کے سر کو چیرتی ہوئی اس کے دانتوں تک آ پہنچی اور تمام اہل لشکر نے اس ضرب کی آواز سنی۔ [راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کسی اور نے سیدنا علی رض کا مقابلہ کرنے کا ارادہ نہ کیا] آخری صفع کے لوگ سیدنا علی رض کے پاس ابھی پہنچ نہیں پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمادی [یعنی پہلی صفوں کے مجاہدین ہی نے اہل خیر کو شکست دے دی۔ آخری صفوں کے مجاہدین کو میدان میں اترنے کی نوبت ہی نہ آئی]۔

تحقیق و تخریج:

[ضعیف و منکر]

اس روایت کی سند میں ابو عبد اللہ میمون بصری راوی ضعیف ہے۔

[تقریب التبدیل لابن حجر: 7051]

متدرک حاکم (37/3)، دلائل النبوة للبيهقي [211/4] میں اس کا متابع المسیب بن مسلم

الاودی ”محبوب“ ہے۔

مند البر ار (770) میں اس کا ایک مکر شاہد بھی ہے۔ اس کا راوی عبید اللہ بن موتی العبسی صحابہ کاراوی ہے، ثقہ ہے۔ حافظ ابن سعد رض اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

”کان ثقة صدوقا، ان شاء الله كثير الحديث حسن الهيئة۔“
وكان يتشيع، و يروي أحاديث في التشيع منكرة، فضعف بذلك
عند كثير من الناس۔“

”یا ان شاء اللہ ثقة و صدقہ ہے۔ کثیر الحدیث اور حسن الحدیث راوی ہے۔ البتہ شیعہ بھی ہے۔ تشیع میں مکر روایتیں بیان کرتا ہے۔ اسی بنا پر اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔“

(الطبقات لابن سعد: 6/368)

الہذا یہ روایت بھی مکر ہے، یاد رہے مکر حدیث ضعیف ہوتی ہے۔

تبصیرہ:

سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پرچم پکڑا اور اسے لہرا یا پھر فرمایا: کون ہے جو اس جہنم کے حق ادا کرے گا؟۔ تو فلاں آیا، اس نے عرض کیا: میں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: سوار ہو جائیے، پھر ایک شخص آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: سوار ہو جائیے، پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: والذی کرم وجه محمد لاعطینہا رجلا لا یفر۔ ”اس ذات کی قسم! جس نے محمد ﷺ کے چہرے کو مکرم بنایا، یہ جہنم میں اس کو دوں گا جو میدان نہیں چھوڑے گا۔“ اے علی! یہ لو، سیدنا علی رض جہنم کے کوئے کرچلے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خیر اور فردک کو فتح فرمادیا۔

[مندالامام احمد: 3/16؛ مندادی علی: 1341]

تبصرہ:

یہ مکر روایت ہے، حفاظ حدیث نے اسے ان الفاظ کے بغیر صحیح سندوں سے روایت کیا ہے۔

اس کا راوی عبد اللہ بن عصْم [عصْم] ابو علوان اگرچہ جمیور محدثین کے نزدیک ”موثق، حسن الحدیث“ ہے، لیکن قلیل الروایتی ہونے کے باوجود یہ کثرت سے غلطیاں کرتا تھا، اور منکرو روایات بیان کرتا تھا۔ ایسے راوی کا تفرد جو حفاظت کے خلاف ہو مضر ہوتا ہے۔ یہ روایت بھی اس کا تفرد ہے اس لیے یہ غریب اور منکر ہے۔ اس راوی کے بارے میں امام ابن حبان ہبنت فرماتے ہیں:

منکر الحدیث جدا علی قلة روایته۔

”قلیل الروایت ہونے کی وجہ سے یہ سخت منکر الحدیث راوی ہے۔“

[الجر و حسین: 2/5]

نیز اپنی کتاب الشفات [5/57] میں فرماتے ہیں:

یخطئ کثیرا۔

”یہ کثیر الخطأ راوی ہے۔“

حافظ یثمی ہبنت فرماتے ہیں:

”وهو ثقة يخطئ۔“

”یہ شقر راوی ہے مگر غلطی کاشکار ہو جاتا ہے۔“

[مجموع الزوائد: 9/124]

حافظ ابن حجر ہبنت فرماتے ہیں:

”صادق يخطئ۔“

”یہ سچا راوی ہے مگر غلطی کر جاتا ہے۔“

[تقریب التہذیب: 3476]

حافظ ابن کثیر ہبنت فرماتے ہیں:

”واسناده لا باس به وفيه غرابة۔“

”اس کی سند میں کوئی خرابی نہیں، البتہ اس کے متن میں غرابت پائی جاتی ہے۔“

[البداية والنهاية: 4/212]

جب اس کا تفرد مضر ہے تو ”لاباس بہ“ کیسے؟۔ اور غراابت کی بھی یہی وجہ ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رض سے روایت ہے:

بعثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَبْرَيْزَ، أَخْسَبَهُ أَبَا يَكْرِيرَ.
فَرَجَعَ مُهْزِمًا وَمَنْ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، بَعْثَ عُمَرَ، فَرَجَعَ
مُهْزِمًا، يُجْهِنُ أَصْحَابَهُ، وَيُجْهِنُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعْطَيْنَ الرَّأْيَةَ غَدَ رَجْلًا، يُحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
وَيُحَبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَتَازَ النَّاسُ.
فَقَالَ: أَيْنَ عَلَيْيُ؟ فَإِذَا هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ، فَتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّأْيَةَ، فَهَرَّهَا، فَفَتَحَ اللَّهُ
عَلَيْهِ.

”رسول اللہ ﷺ نے خیبر کی طرف روانہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں: میراگمان ہے کہ [سیدنا عبداللہ بن عباس رض نے بیان فرمایا:] سیدنا ابو بکر صدیق رض کو بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خورده واپس آئے، پھر جب دوسرا دن آیا تو سیدنا عمر رض کو بھیجا، وہ بھی شکست خورده واپس آئے، اپنے ساتھیوں کو بزدل کہہ رہے تھے اور ان کے ساتھی انہیں کم ہمت کہہ رہے تھے، پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کل میں جہنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ واپس نہیں لوٹے گا، یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ اس پر تمام لوگ امیدوار تھے کہ آپ نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ اس وقت وہ آشوب چشم میں بتا تھے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کی آنکھ میں اپنا العابد ہمن ڈالا، پھر ان کی طرف جہنڈا بلند کیا، اسے لہرایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمادی۔“

تَبَصُّرٌ:

اس کی سند سخت ضعیف اور ناقابلی استدلال ہے، حکیم بن جبیر اسدی راوی ضعیف اور متروک ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام نسائی رض اور جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ امام دارقطنی رض نے متروک کہا ہے۔

[سنن الدارقطنی: 2/122]

حافظ یثیمی رض فرماتے ہیں:

وهو متروك، ضعفه الجمهور.

”یہ متروک راوی ہے، جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔“

[مجموع الزوائد: 5/320; 7/299]

علامہ عینی لکھتے ہیں:

ضعفه الجمهور.

”جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔“

[عدمۃ القاری: 11/95]

تَبَغْبَةٌ:

ایک روایت یوں مذکور ہے:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ فَسَارَ بِالنَّاسِ

فَأَنْهَرَمَ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ، وَبَعْثَ عُمَرَ فَانْهَرَمَ بِالنَّاسِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ،

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رض کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا تو وہ

ٹکست خورده واپس آئے، پھر سیدنا عمر رض کو بھیجا، وہ بھی لوگوں کے ساتھ ٹکست

خورده واپس آئے۔“

[مصنف ابن ابی شیعیہ: 6/370؛ مند البر ارج: 496]

تہصیرہ:

اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں وہی ابن ابی لیلیٰ راوی جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، موجود ہے۔

سیدنا سلمہ بن اکوؑ ڦلنڈر سے روایت ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الرَّأْيَةَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ . فَبَعْثَةَ إِلَى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ . فَقَتَلَ . ثُمَّ رَجَعَ ، وَلَمْ يَكُنْ فَتْحٌ . وَقَدْ جَهَدَ . فَقَالَ : لَا يُعْطِيَنَ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِيهِ . لَيْسَ بِفَرَارٍ فَدَعَا عَلَيْهِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ أَرْمَدٌ ، فَتَفَلَّ فِي عَيْنِيهِ . ثُمَّ قَالَ : حُذْهِنِيَ الرَّأْيَةَ ، حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَكَ قَالَ سَلَمَةُ : فَخَرَجَ وَاللَّهُ يُهْرِزُونَ هَرْزُولَهُ . وَأَنَا حَلْفَهُ أَتَبْغُ أَثْرَهُ ، حَتَّى رَكَّزَ الرَّأْيَةَ فِي رَضْمِ حِجَارَةٍ ، فَأَطْلَعَ عَلَيْهِ يَهُودِيٌّ مِنْ رَأْسِ الْجِصْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : أَنَا عَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ الْيَهُودِيُّ : غَلَبْتَهُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى . فَمَا رَجَعَ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابو بکر صدیق ڦلنڈر کو جمنڈا عطا فرمایا، انہیں خیر کے کسی قلعہ کی طرف روانہ فرمایا، لیکن وہ بسیار کوشش کے باوجود بغیر فتح کے واپس لوٹ آئے، اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جمنڈا دوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس کے ذریعے خیر فتح ہو گا، وہ شخص جنگ میں راہ فرار اختیار نہیں کرے گا۔

راوی کہتے ہیں: اس کے بعد آپ ﷺ نے سیدنا علی ڦلنڈر کو بلا یا، اس وقت ان کی آنکھوں میں درد تھا، آپ ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈھالا، پھر

فرمایا: یہ جھنڈالو [اور اس وقت تک لڑتے رہو] جب تک خدا تمہارے ہاتھوں فتح نہ عطا فرمائے۔

راوی حدیث سیدنا سلمہ بن اکو علی ڦٽٽ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، میں بھی ان کے نقش قدم پر چلا، یہاں تک کہ سیدنا علی ڦٽٽ نے ایک بڑے پتھر پر جھنڈا نصب فرمادیا، قلعہ کے اوپر ایک یہودی نے سیدنا علی ڦٽٽ کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا: آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں علی بن ابی طالب ہوں، اس یہودی نے کہا: پھر فتح تمہاری ہوگی، کیونکہ سیدنا موئی ﷺ پر یہی بات [ہماری کتاب توراة میں] نازل شدہ ہے۔ سیدنا علی ڦٽٽ فتح کر کے ہی واپس تشریف لائے۔

[امجم الکبیر للطبرانی: 7/35؛ ح: 6303؛ من محدث: 696]
المستدرک للحاکم: 37/3؛ حلیۃ الاولیاء لابی نعیم الصھانی: 1/162]

تبصرہ:

یہ سخت ضعیف روایت ہے۔

1۔ اس کا راوی بریدہ بن سفیان جمہور محمد شیعیین کے نزدیک ضعیف ہے۔

امام احمد بن حنبل چنبل چنبل سے اس کی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ چنبل نے فرمایا: لہ بلیة تحکی عنہ۔

”یہ مصیتیں بیان کرتا ہے۔“

[اعلیٰ دعرنۃ الرجال برداۃ عبد اللہ: 1500]

امام بخاری چنبل فرماتے ہیں:
فیه نظر۔

”اس میں کلام ہے۔“

[التاریخ الکبیر: 2/141]

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”متروک“ کہا ہے۔

[الضعفاء والمترکون: 134]

امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ضعیف الحدیث“ قرار دیا ہے۔

[الجروح والتعديل لابن ابی حاتم: 424/2]

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لیس بالقوى في الحديث۔

”یہ حدیث میں قوی نہیں ہے۔“

[سنن النسائی: 801؛ الضعفاء والمترکین: 89]

امام جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ردی المذبب۔

”یہ ردی المذبب راوی ہے۔“

[احوال الرجال: 205]

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فیه نظر۔

”اس میں کلام کی گئی ہے۔“

[الکافی: 1/99]

حافظ یثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ کہا ہے۔

[مجموع الزواائد: 8/239]

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

لیس بالقوى وفيه رفض۔

”یہ قوی نہیں ہے، اس میں رافضیت پائی جاتی ہے۔“

[تقریب التجدید: 1/66]

جہو را کہ محدثین کی جروح کے مقابلہ میں امام ابن عدی، امام ابن حبان اور امام ابن شاہین رض کی توثیق کار آئندیں۔

2۔ بریدہ کے باب سفیان بن فروہ رض کے بارے میں امام بخاری رض فرماتے ہیں:

يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ۔

”محدثین نے اس میں کلام کی ہے۔“

[التاریخ الکبیر: 4/96]

لہذا امام حاکم رض کا اس روایت کو ”صحیح الاسناد“ کہنا اور حافظ ذہبی رض کا ان کی موافقت کرنا صحیح نہیں ہے۔

کسی صحیح روایت سے قطعیت ثابت نہ ہو سکا کہ خیر کا جہذا، سیدنا عمر رض کو تمہایا گیا ہو پھر ان سے لے لیا گیا ہو یادہ نکست خورده واپس لوٹے ہوں۔

17۔ أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَغْرُوبُ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْرٍ: «لَا غُطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةُ غَدَّا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، يُحْبِثُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُجْبِهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَزْجُو أَنْ يُعْطَى. فَقَالَ: «أَيْنَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتَيْنَاهُ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ فِي عَيْنَيْهِ. وَدَعَاهُ، فَبَرَأَ كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجْعٌ، فَأَغْطَاهُ الرَّأْيَةُ، فَقَالَ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَإِنْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْنَاءً؟» قَالَ: «أَنْفُذْ عَلَى رَسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحِتِهِمْ، ثُمَّ اذْعُنْهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخِرِّهِمْ بِمَا يَجِدُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنَّ مَهْدِيَ اللَّهِ إِلَكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعْمٍ»

۱۔ سیدنا کہل بن سعد رض سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیر کے دن فرمایا: کل میں جہذا اس شخص کو دوں گا، جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)

سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ اس سے محبت کرتے ہیں۔ [صحابہ کرام نے اس اضطراب کی کیفیت میں رات گزاری کر آپ ﷺ کس کو حبند اعطافرمائیں گے] جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے اور ہر ایک شخص امید کیے ہوئے تھا کہ آپ ﷺ اسی کو حبند اعطافرمائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کو بلا و۔ سیدنا علیؑ کو بلا یا گیا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن دا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تو ان کی آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئیں گویا کہ کوئی تکلیف ہی نہ تھی پھر آپ ﷺ نے ان کو حبند ادیا۔ سیدنا علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا میں ان سے اس وقت تک جہاد کرتا ہوں گا جب تک وہ ہماری طرح نہ ہو جائیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نرمی سے روانہ ہونا جب تم ان کے پاس میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتانا کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق واجب ہیں، بندرا اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 3701؛ صحیح مسلم: 2404

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو بیان کرنے میں
ناقلین کا (لفظی) اختلاف

18- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبْدِ الدِّينِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَذْفَعَنَ الْيَوْمِ الرَّاِيَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» فَتَطَافَّأَ الْقَوْمُ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلَيْ؟» فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ: «فَبَصَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفْفِيْهِ، وَمَسَخَ هَمَّا عَيْنَيْهِ عَلَيْ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّاِيَةَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَدَيْهِ»

18- سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہر ایک شخص امید کیے ہوئے تھا کہ اسی کو جھنڈا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر [مسلمانوں کو] فتح عطا فرمائی۔

تحقیق:

[اسنادہ صحیح]

تخریج:

مصنف ابن ابی شہیۃ: 69/12 و صحیح ابن حبان [6932]

19- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهْبَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْرِكُمْ «لَا غُطْبَيْنَ هَذِهِ الرَّأْيَةُ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ» قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحَبَّتِ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ إِيمَانًا، وَقَالَ: «إِمَانٌ، وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ» فَسَارَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَوَقَّنَ - يَعْنِي - فَصَرَخَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامُ أَقَايَلِ النَّاسِ؟ قَالَ: «قَاتِلُهُمْ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنَّ لَهُ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنَغُوا مِنْيَ دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَجِسَامُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

19- سیدنا ابو ہریرہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیر کے دن فرمایا: میں ضرور اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (علیہ السلام) سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (علیہ السلام) اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ سیدنا عمر علیہ السلام نے فرماتے ہیں: میں نے اس دن کے علاوہ کبھی امارت کی تھیں نہیں کی، مگر رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علی علیہ السلام کو بکار جھنڈا دیا اور فرمایا: جاؤ لڑوا دھرا دھر اتفاقات نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے تو سیدنا علی علیہ السلام تھوڑا اس دور جا کر ٹھہر گئے اور زور سے آواز دی: یا رسول اللہ ﷺ، میں کس بنیاد پر جنگ کروں گا؟ تو فرمایا: اس وقت تک جنگ کرنا جب تک، وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور بالا شہر میں [محمد ﷺ] اللہ کا [سچا] رسول ہوں، جب وہ ایسا کریں تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا، سوائے اس کے کہ ان پر کسی کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔

تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 2405

20- اخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهْبَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُغْطِيَنَ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ عَلَيْهِ». قَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحَبَّتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ إِلَّا يَوْمِنِي. قَالَ: فَاسْرَأْبَ لَهَا، فَدَعَا عَلَيْا فَبَعَثَهُ ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَقَاتِلْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا تَلْتَمِثْ» قَالَ: «فَمَشَى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ وَقَفَ، فَلَمْ يَلْتَمِثْ» فَقَالَ: «عَلَامَ أَفَتَلَيْ النَّاسَ؟» قَالَ: «قَاتَلُوكُمْ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنَعُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَجِسَامُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

۲۰- سیدنا ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے [خبر کے دن] فرمایا: کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ سیدنا عمر رض نے فرماتے ہیں: میں نے اس دن کے علاوہ کبھی امارت کی تمنا نہیں کی، میں اس کی امید میں تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رض کو بلا یا، ان کو بھیجا اور فرمایا: جاؤ لڑا وادھر ادھر التفات نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ راوی نے کہا: جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، سیدنا علی رض چلے، پھر ہر گئے، البتہ وہ ادھر ادھر التفات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس بنیاد پر جنگ کروں گا؟ تو فرمایا: اس وقت تک جنگ کرنا جب تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور بلاشبہ محمد [صلی اللہ علیہ وسلم] اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا، سوائے اس کے کہ ان پر کسی کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ صحیح]

21- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
وَهُبَيْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهْبَيْلُ بْنُ أَبِيهِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَيْبَرٍ: «لَاذْفَعْنَ الرَّأْيَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحَبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ» . قَالَ عُمَرُ فَمَا أَخْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ قَبْلَ يَوْمِنِي، فَدَفَعَهَا إِلَيَّ
فَقَالَ: «قَاتِلْنَ، وَلَا تُلْتَفِتْ» فَسَارَ قَرِيبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَامَ أَقَاتِلُ النَّاسَ؟
قَالَ: «عَلَى أَنْ يَشَهُدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ
عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ مَنِي إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

21- سیدنا ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خیر کے دن فرمایا: میں جب تک اس
شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو محبوب ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ سیدنا
عمر (رضی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: میں نے اس دن کے علاوہ کبھی امارت کی تمنا نہیں کی [مگر جب صبح ہوئی] تو رسول
اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سیدنا علی (رضی اللہ علیہ وسلم) کو بلا کر جب تک ادا یا اور فرمایا: جاؤ لڑوا دھرا دھر التفات نہ کرنا تو سیدنا علی (رضی اللہ علیہ وسلم)
تھوڑا سا دور جا کر پھر تھہر گئے پھر آواز دی: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کس بنیاد پر لوگوں سے جنگ کروں گا؟
تو فرمایا: اس وقت تک جنگ کرنا جب تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبد نہیں ہے اور بلا
شبہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ
کر لیا، سوائے اس کے کہ ان پر کسی کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔

تحقیق:

[اسناد صحیح]

تخریج:

مند الامام احمد: 2384؛ مند الطیالسی: 2441

ذِكْرُ خَبْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي ذَلِكَ

اس سلسلے میں سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت

-22- أَخْبَرَنَا أَعْبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِئِيعَيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأُغْطِيَنَّ الرَّاهِيَّةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» أَوْ قَالَ: «يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» فَدَعَا عَلَيْهِ، وَهُوَ أَرْمَدٌ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَدَيْهِ

-۲۲- سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ [غزوہ نیبر کے موقع پر] رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت کرتا ہے، یا یہ فرمایا: اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا یا، وہ اس وقت آشوب چشم میں بتلاتھے۔ اللہ تعالیٰ نے (مسلمانوں کو) ان کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائی۔

تحقیق و تخریج:

[صحیح]

صحیح مسلم [1807] میں اس کا شاہد موجود ہے۔

ذِكْرُ خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي ذَلِكَ وَأَنَّ جِبْرِيلَ يُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيقَائِيلَ عَنْ يَسَارِهِ

نبی کریم ﷺ سے سیدنا حسن بن علی علیہما السلام کی ذکر کردہ روایت کا بیان

کہ سیدنا جبریل علیہ السلام سیدنا علی علیہ السلام کے دامیں اور سیدنا میکائیل علیہ السلام

با نکیں جانب رہ کر جنگ کرتے ہیں

- 23۔ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءَ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ فِيْكُمْ بِالْأَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأُولُونَ، وَلَا يُذْرِكُهُ الْآخِرُونَ» فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُغْطِيَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» فَقَاتَلَ جِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيقَائِيلَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ لَا تُرَدُّ - يَعْنِي زَانِتُهُ - حَتَّى يُفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، مَا تَرَكَ دِيَنَارًا، وَلَا درْهَمًا إِلَّا سَبْعَمِائَةً دِرْهَمٍ أَخْدَهَا مِنْ عَطَائِهِ، كَانَ أَرَادَ أَنْ يُبْتَاغِرَ بِهَا خَادِمًا لِأَهْلِهِ 23۔ هبیرہ بن یریم سے روایت ہے کہ [جب سیدنا علی علیہما السلام کی شہادت ہوئی تو] سیدنا حسن علیہما السلام

ہمارے پاس تشریف لائے، وہ اس وقت سیاہ رنگ کا عمامہ پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: یقیناً تم سے کل وہ شخص جدا ہو گیا جس سے علم میں آؤں [قدِیم علمائے کرام علم میں] آگئے ہیں تھے اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کا مقام پائیں گے۔ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے [ان کے بارے میں] فرمایا: کل میں ضرور جہنم کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان کے دائیں اور سیدنا میکائیل علیہ السلام نے باعیں جانب رہ کر جنگ کی۔ پھر انہوں نے جہنم کے کو اس وقت تک نہیں رکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے نہ نواز دیا اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے سوائے سات سو (۰۰۰) درہم کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تاکہ ان کے اہل و عیال ان [سات سو درہم] سے خادم کا بندوبست کر لیں۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابو احراق اسے مل سی، ساعت کی تصریح نہیں مل سکی۔ محدثین کرام کا اصول ہے کہ ثقہ ملس راوی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ لفظ ”عن“ سے روایت کرے تو ”ضعیف“ ہوتی ہے۔ تا وقیکہ ساعت کی تصریح نہ کر دے۔

تخریج:

الطبقات لابن سعد: 38؛ مسن الامام احمد: 199؛ المجمع الکبیر للطبرانی: 3/79؛ 80؛

وصحیح ابن حبان: [6930]

فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل (1026) والی سند شریک بن عبد اللہ القاضی کی تدليس کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔ ساعت کی تصریح نہیں مل سکی۔

اس روایت کے مزید طرق بھی ہیں: ان کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔

طريق نمبر ۱:

سیدنا حسن ڦالٽڻ نے خطاب کیا:

وَاللَّهِ أَقْدَ قَتَلْتُمُ اللَّيْلَةَ رَجُلًا فِي لَيْلَةِ نَزْلَةِ فِيهَا الشُّرَآنُ

”بلاشبہ گز شترات تم میں ایک آدمی ایسی رات میں شہید ہوا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔“

(الْعَجْمُ الْأَوْسَطُ لِلْطَّبَرَانِيِّ: 8/224، ح: 8469؛ مسند البر اور: 1340، مسند ابی یعلیٰ: 6757)

تبصرہ:

یہ سند ”ضعیف“ ہے۔ اس کا دار و مدار خالد بن جابر کے والد پر ہے، وہ مجہول ہے۔

تعمییہ:

مسند بزار میں خالد بلا واسطہ سیدنا حسن ڦالٽڻ سے بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ امام ابو حاتم رازی چنین ہے نے بیان کیا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ اس کا سیدنا حسن ڦالٽڻ سے سماع نہیں، بلکہ اپنے باپ سے سماع ہے۔ جیسا کہ امام بخاری چنین ہے بیان کیا ہے اور دیگر سندوں سے عیاں ہے۔

تعمییہ:

حفص بن خالد کی مسند ابی یعلیٰ میں عبدالعزیز بن قیس اور جعفر نے متابعت کر رکھی ہے۔

طريق نمبر ۲:

ابوالطفیل ڦالٽڻ سے روایت ہے:

خَطَّبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنَّى عَلَيْهِ.

وَذَكْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَاتَمُ الْأُوصِيَاءِ۔۔۔۔۔

”سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب علیہما السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و شابیان

کی، انہیوں نے خاتم الاوصیاء امیر المؤمنین سیدنا علی علیہما السلام کا تذکرہ فرمایا۔۔۔۔۔“

(معجم الاوسط للطبری ان: 2155)

تبصرہ:

یہ سند سخت ”ضعیف“ ہے۔ اس کا راوی سلام بن ابی عمر و خراسانی سخت محروم ہے، اس کی تو شیق میں ادنیٰ کلمہ تو شیق ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسکری نے اسے ضعیف کہا ہے۔

(تقریب التہذیب: 2709)

طریق نمبر ۳:

ابورزین کتبے ہیں:

خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيْهِ حِينَ أَصَبَّ أَبُوهُ۔۔۔۔۔

”سیدنا حسن بن علی علیہما السلام نے خطبہ دیا جب ان کے والد زخمی ہوئے۔۔۔۔۔“

(مند البر ار: 1341)

تبصرہ:

یہ جھوٹی سند ہے۔

۱۔ اس کو تراشئے والا ”ابوالبارود“ (زیاد بن المندر) الکوفی بالاتفاق ”متروک، کذاب“ اور ”وضاع“ راوی ہے۔

۲۔ اس کے شاگرد تیجی بن سالم الکوفی کو امام دارقطنی نے ”متروک“ کہا ہے۔

(انفعنا، والمتر وکون: 240)

۳۔ اس کے شاگرد قاسم بن فحّاک کی توثیق درکار ہے۔

طريق نمبر: ۲

علی بن حسین نبیت بیان کرتے ہیں:

خَطَبَ الْحَسْنُ بْنُ عَلَيِ النَّاسَ حِينَ قُتِلَ عَلَيٌّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ قُبْضَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ رَجُلٌ لَا يَسْبِقُهُ الْأَوْلَوْنَ يَعْمَلُ وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ رَأْيَتَهُ فِي قِاتَلَ وَجْبِيلَ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِهِ. فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَنْتَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَمَا تَرَكَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ صَفَرَاءً وَلَا بَيْضَاءً إِلَّا سَبَعَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَضَلَّتْ مِنْ عَطَابِاهُ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا خَادِمًا لِأَهْلِهِ». ثُمَّ قَالَ: "أَئْبَهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِنِي فَأَنَا الْحَسْنُ بْنُ عَلَيٌّ. وَأَنَا ابْنُ النَّبِيِّ. وَأَنَا ابْنُ الْوَصِيِّ. وَأَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ. وَأَنَا ابْنُ النَّذِيرِ. وَأَنَا ابْنُ الدَّاعِيِّ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَأَنَا ابْنُ السَّرَّاجِ الْمُبِيرِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ جَبِيلٌ يَنْزِلُ إِلَيْنَا وَيَصْعُدُ مِنْ عِنْدِنَا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْبِيرًا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ مَوْدَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا} [الشوری: 23] فَاقْتَرَافُ الْحَسَنَةِ مَوْدَدُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ"

"جب سیدنا علیؑ شہید ہوئے تو سیدنا حسن بن علیؑ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی

حمد و شنبایان کی پھر فرمایا: یقیناً تم سے آج رات وہ شخص جدا ہو گیا، جس سے علم میں اولون [قدیم علمائے کرام] عمل کے اعتبار سے آگئے نہیں تھے، نہیں بعد میں آنے والے ان کا مقام پائیں گے۔ یقیناً رسول اللہ ﷺ ان کو حمدنا دیتے اور جہاد کے لیے روانہ فرماتے، سیدنا جبریل ﷺ ان کے دامیں اور سیدنا میکائیل ﷺ ان کے بائیکیں طرف رہ کر جہاد کیا کرتے تھے، وہ تب لوٹتے جب ان کو فتح ملتی۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے سوائے 700 درہم کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تاکہ ان کے اہل و عیال اس [سات سو درہم] سے خادم کا بندوبست کر لیں۔ پھر فرمایا: اے لوگو جو شخص مجھے جانتا ہے، ویسے آپ مجھے جانتے ہی ہیں، مگر جو شخص مجھے نہیں جانتا، وہ سن لے: میں حسن بن علی، نبی کریم ﷺ، وصی، بشیر و نذیر، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور سراج منیر کا نواسہ ہوں۔ میں ان اہل بیت سے ہوں جن کے لیے اہل بیت کا لقب سیدنا جبریل ﷺ کے کرنازیل ہوئے، ہمارے پاس سے اوپر گئے، اسی طرح میں اس اہل بیت سے ہوں، جن سے اللہ تعالیٰ نے نجاست کو دور کر دیا ہے اور انہیں خوب پاک کر دیا ہے۔ میں ان اہل بیت سے ہوں جن سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو فرمایا: ترجمہ: ”کہہ دیجیے: میں اس پر تم سے کوئی بدله نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی، جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھادیں گے۔“ یوں ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔“

(المُعْتَدِرُكُ لِلْحَاكَمِ: 3/173، الذرِيَّةُ الطَّاهِرَةُ تَلَدُّدُ وَلَابِي: 124)

تبصرہ:

یہ جھوٹی سند ہے۔

۱۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو محمد حسن بن محمد بن میحبی ابن اخنی طاہر عقیقی حسنی، کے بارے میں حافظ

ذہبی ہدیہ فرماتے ہیں: یہ ”متهم“ ہے۔

(میزان الاعتدال: 521/1؛ الحنفی فی الضعفاء: 167/1)

نیز حافظ ذہبی ہدیہ اس کی دو حدیثیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
”فہدان دلان علی کذبه و علی رفضه۔“

”یہ دونوں روایتیں اس کے جھوٹا اور افسوسی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔“

(میزان الاعتدال: 521/1)

نیز ”الکذاب“ بھی کہا ہے۔

(تلخیص کتاب الموضوعات: 115/1)

- اس کے بارے میں ادنیٰ کلمہ توثیق بھی ثابت نہیں۔ اس کی متابعت حافظ دولابی کے استاذ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ ہمس بن معمر جو ہری نے کر رکھی ہے۔
 اولاً: حافظ دولابی خود ”ضعیف“ ہیں۔
 ثانیاً: ان کے استاذ رحمۃ اللہ علیہ ہمس بن معمر کی توثیق نہیں مل سکی۔
 ۲۔ اس روایت کے راوی اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر کی توثیق نہیں مل سکی۔
 ۳۔ علی بن جعفر بن محمد حسین بھی مجہول الحال ہے۔
 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”مقبول“ (مجہول الحال) کہا ہے۔

(تقریب التہذیب لابن حجر: 4699)

حافظ ذہبی ہدیہ فرماتے ہیں:

”ما رأيت أحداً لينه نعم ولا من وثقه و حديثه منكرا جداً۔“

”میں نہیں نے دیکھا کہ کسی نے اس کو ”لین الحدیث“ کہا ہو یا اس کی توثیق بیان کی ہو، البتہ اس کی روایت سخت منکر ہوتی ہے۔“

(میزان الاعتدال: 117/3، ت: 5799)

نیز اس روایت کو "لیس بصحیح" لہا ہے۔

(تغییص امتدار ک: 172/3)

تبیہ:

اس روایت کا ایک ضعیف شاہد بھی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رض سے روایت ہے کہ رسول

الله عزیز نے فرمایا:

الا اعطین الرایة لرجل ای حب اللہ و رسوله ویحبہ اللہ و رسوله

کرار غیر فرار۔۔۔

"میں ضرور حجہ نہ ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ میدان سے بھاگنے والائیں ہو گا۔"

(تاریخ دمشق لابن عساکر: 41/219، کنز العمال للہندی: 36393)

تبصرہ:

یہ سند ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی علی بن احمد بن عبد الرحمن دمشقی کی توثیق نہیں مل سکی۔ ہمیں

لئے راویوں کی روایات کا مکلف نہ ہوا یا گیا ہے۔

الحاصل:

یہ روایت ساری کی ساری سندوں کے ساتھ "ضعیف" اور "منکر" ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"غريب جداً ومتنه نكاره۔"

"یہ روایت سخت کمزور ہے اور اس کے متون میں نکارت پائی جاتی ہے۔"

(البداية والنهاية: 7/333)

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلِيٍّ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا يُخْزِيهِ أَبَدًا»

نبی کریم ﷺ کا سیدنا علیؑ کے بارے میں یہ فرمان:
 ”بِلَا شَبَهٍ لِّلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ كُوُّبَّهِ رَسُولِنَا مِنْ كُلِّ الْأَنْبِيَاءِ“

24- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّهَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ وَهُوَ أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: إِنِّي لِجَالِسٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَتَاهُ تِسْعَةً رَهْبَطَ، فَقَالُوا إِنَّمَا أَنْ تَقُومُ مَعْنَا، وَإِنَّمَا أَنْ تَخْلُونَا يَا هَوْلَاءَ وَهُوَ يَؤْمِنُ صَحِيحًّا قَبْلَ أَنْ يَغْمِيَ قَالَ: «أَنَا أَفُوْمُ مَعَكُمْ» فَتَحَدَّثُوا، فَلَا أَذْرِي مَا قَالُوا: فَجَاءَ وَهُوَ يَنْفُضُ ثَوْنَاهُ وَهُوَ يَقُولُ: «أَفِي وَتْفٍ يَتَقْعُونَ فِي رَجْلٍ لَهُ عَشْرُ وَقَعْدَوْا فِي رَجْلٍ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْغَيْنَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يُخْزِيَ اللَّهُ أَبَدًا» فَأَشْرَفَ مَنْ اسْتَشْرَفَ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ؟» وَهُوَ فِي الرَّحَّا يَطْحَنُ، وَمَا كَانَ أَحْدُكُمْ لِيَطْحَنَ، فَدَعَاهُ، وَهُوَ أَزْمَدُ، مَا يَكَادُ أَنْ يُبَصِّرَ، فَنَفَّثَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ هَرَّ الرَّأْيَةَ ثَلَاثًا، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَجَاءَ بِصَفَيَّةَ بِنْتِ حُبَيْيَ، وَبَعْثَ أَبَا بَكْرٍ بِسُورَةِ التَّوْبَةِ وَبَعْثَ عَلَيْهَا حَلْفَهُ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ: «لَا يَذْهَبُ ہُنَا رَجُلٌ إِلَّا رَجُلٌ هُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ» وَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ، وَالْحُسَينَ، وَعَلِيًّا، وَقَاطِمَةَ، فَمَدَ عَلَيْهِمْ ثَوْنَاهُ فَقَالَ: «هَوْلَاءُ أَهْلُ بَنِي وَخَاصَّتِي،

فَأَذَهَبْتُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرْتُهُمْ تَطْهِيرًا» وَكَانَ أَوَّلَ مِنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ حَدِيْجَةَ، وَلَيْسَ ثُوبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَامَ فَجَعَلَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ كَمَا يَرْمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَخْسِبُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ فَتَالَ عَلَيْهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَهَبَ نَحْنُ بْرُ مَيْمُونٍ، فَاتِّيْعُهُ، فَدَخَلَ مَعَهُ الْغَارِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ عَلَيْهَا حَتَّى أَصْبَحَ، وَخَرَجَ بِالنَّاسِ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَخْرُجْ مَعَكُ؟ فَقَالَ: «لَا» فَبَيْكَ فَقَالَ: «أَمَا تَرَضِيَ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَازِوْنَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنِي؟» ثُمَّ قَالَ: «أَنْتَ خَلِيفَتِي» يَعْنِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ: «وَسَدَّ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلَيِّ، فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنْبُثُ. وَهُوَ فِي طَرِيقِ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ» وَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَهُ فَعَلَيْهِ وَلِيُّهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَخْبَرَنَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَهَلْ حَدَّثَنَا بَعْدَ أَنَّهُ سَخَطَ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَرَ حِينَ قَالَ: «إِنَّنِي لِي، فَلَأَضِرُّ عُنْقَهُ - يَعْنِي حَاطِبًا -» وَقَالَ: «مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ اطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ؟» فَقَالَ: «أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»

۲۲۔ عمرو بن ميمون رض سے روایت ہے کہ میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رض کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ نو آدمیوں کا گروہ [حدیث میں "رخط" کا لفظ بیان کیا گیا ہے جو تین سے دس آدمیوں کے اس گروہ پر بولا جاتا ہے کہ جس میں کوئی بھی عورت نہ ہو] آیا اور کہنے لگے: اے ابن عباس یا تو آپ ہمارے ساتھ باہر آجائیں یا پھر ان لوگوں سے الگ ہو جائیں، [یعنی ہم آپ سے اکیلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں]۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں وہ ابھی تک قوت بصارت سے محروم نہیں ہوئے تھے [راوی یہ اس لیے وضاحت کر رہے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رض کی عمر کے آخری حصے میں قوت بصارت ختم ہو گئی تھی] سیدنا عبد اللہ بن عباس رض نے ان سے فرمایا: نہیں بلکہ میں ہی تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں پھر انہوں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا لیکن ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی، کچھ دیر بعد سیدنا عبد اللہ بن عباس رض اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے لوٹ آئے اور کہہ رہے تھے: ہلاکت ہے، ہلاکت ان لوگوں

کے لیے جو ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں جن کی یہ دس صفات ہیں۔ (ان لوگوں نے سیدنا علیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی)

۱۔ جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے [خبر کے موقع پر] فرمایا تھا: میں اس آدمی کو بھجوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اُسے رسوانیں کرے گا، اس لیے ہر آدمی آگے آگے بڑھ رہا تھا کہ کس کو یہ شرف ملتا ہے۔ مگر آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: وہ گندم کو پیس رہے ہیں آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کام کرتا؟ پھر سیدنا علیٰ ﷺ تشریف لائے حالانکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنا لاعب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ شیک ہو گئیں پھر آپ ﷺ نے تین مرتبہ جہنم کے کولہ رایا پھر سیدنا علیٰ ﷺ کو عطا فرمایا کہ فتح کر کے صفیہ بنت حیی کو لے آئیں۔

۲۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے سورۃ التوبہ کی آیات دے کر بھیجا پھر سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کو ان کے پیچھے بھیجا چنانچہ انہوں نے سیدنا ابو بکر علیہ السلام سے اس سورۃ کو واپس لے لیا پس آپ ﷺ نے فرمایا: اس سورۃ کو صرف وہی شخص لے کر جائے گا جو مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔

۳۔ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ سیدنا حسن، سیدنا حسین، اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ علیہما السلام کو بلایا، ان کو اپنی چادر لپیٹ کر یہ دعا فرمائی: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت اور خاص آدمی ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور خوب پاک و صاف کر دے۔

۴۔ وہ [سیدنا علی المرتضی علیہ السلام] پہلے شخص ہیں جو سیدہ خدیجہ علیہما السلام کے بعد سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔

۵۔ وہ [سیدنا علیٰ ﷺ] بھرت کی رات نبی کریم ﷺ کا لباس زیب تن کر کے آپ کی چار پائی پرسوئے رہے یہاں تک کہ مشرکوں نے ان پر پتھرا اور کیا جیسا کہ وہ نبی کریم ﷺ کو پتھر مارتے تھے۔ کیونکہ وہ سیدنا علیٰ ﷺ کو نبی کریم ﷺ خیال کر رہے تھے، اسی دوران سیدنا

- ابو بکر ڦلنڌو آئے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ﷺ، تو سیدنا علی ڦلنڌو نے کہا: آپ ﷺ بُر میمون کی طرف گئے ہیں [سیدنا ابو بکر ڦلنڌو سمجھ گئے] اور آپ کے پیچھے گئے یہاں تک کہ دونوں غار میں داخل ہوئے۔ مشرکین مکنے صبح ہونے تک سیدنا علی ڦلنڌو پر پتھر ادا کیا۔
- 6۔ جب نبی کریم ﷺ لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک کی جانب روانہ ہونے لگے تو سیدنا علی ڦلنڌو نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں بھی آپ کے ساتھ چلو، آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، تو وہ رونے لگ گئے پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کر تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موی (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر آپ نبی نہیں ہیں۔
- 7۔ ان کو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ اے علی تم میرے بعد میرے ناکب ہو یعنی ہر مومن مردار اور مومنہ عورت کے سردار ہو۔
- 8۔ ایک مرتبہ ان کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا: سوائے علی کے مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دو۔ [سیدنا عبد اللہ بن عباس ڦلنڌو نے اس گزشتہ بات کی وضاحت کرتے ہوئے] فرمایا: سیدنا علی ڦلنڌو کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو اس لئے بند کر دیا گیا کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہوتے تھے (یعنی وہ کسی دوسرا جگہ جانے کے لیے حالت جنابت میں مسجد سے گزرتے تھے) کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا استنبیس تھا وہی ایک ان کا راستہ تھا۔
- 9۔ ان کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا جس کا میں مولیٰ [قریبی دوست] ہوں تو علی بھی اس کا مولیٰ [قریبی دوست] ہے۔
- 10۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس ڦلنڌو نے مزید فرمایا: قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ (اللہ) درخت والوں سے راضی ہے لیکن یہ میں نہیں بتایا کہ اس رضا مندی کے بعد ناراض بھی ہوا ہے حالانکہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا عمر فاروق ڦلنڌو کو فرمایا تھا، کہ جب انہوں نے عرض کیا تھا: یا رسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیں کہ میں حاطب بن ابی بلتعہ کی گردن اڑا دوں تو

آپ ﷺ نے فرمایا تھا: کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بدر کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ آج کے بعد تم جو اعمال کرو تم کو بخش دیا گیا ہے۔

تحقیق:

[منکر]

اس روایت کو حافظ ذہبی [میزان الاعتراض: 384/4] اور حافظ عراقی [خزعبلة: 1942/4] نے منکر کہا ہے۔
احادیث الاحیاء: 1942/4

اس کا راوی ابوحنیفہ بن سلیمان اگرچہ "حسن الحدیث" ہے، لیکن امام احمد بن حنبل [ع] فرماتے ہیں:
روی حدیثنا منکرا۔

"یہ منکر روایتیں بیان کرتا ہے۔"

[تہذیب التہذیب لابن حجر: 184/12]

امام ابن حبان [ع] فرماتے ہیں:

فاری ان لا يحتج بما انفرد من الرواية

"میری رائے کے مطابق جن روایتوں میں یہ منفرد ہے، ان سے محنت نہیں پکڑی جاسکتی۔"

[الحجروضین: 3/113]

حافظ ابن حجر [ع] فرماتے ہیں:

صدقوق ریما اخطا

"سچاراوی ہے مگر کبھی غلطی کر جاتا ہے۔"

[تقریب التہذیب: 8003]

اس روایت کے بعض الفاظ میں واضح غرابت اور نکارت پائی جاتی ہے۔

خزعبلة:

مندالامام احمد: 1/330, 331؛ استد رک للحاکم: 3/132 و قال: "صحیح الاسناد" و اثقة الذہبی

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «إِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ»

نبی کریم ﷺ کا سیدنا علیؑ کے متعلق یہ فرمان:

”ان کو بخشن دیا گیا ہے“

25- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ
الْأَسْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَعْلَمُ
كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُمْ غُفْرَلَكُ، مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ»

25- سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے علی! کیا میں تم کو ایسی
دعائے سکھاؤں کہ جب تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بخشن دے، حالانکہ تمہاری بخشش ہو جکی ہے تو آپ ﷺ نے ان کو یہ دعا سکھائی: [لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمَيْنَ] ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بردار اور عزت والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو
اوچا اور بڑا ہے۔ پاک ہے، اللہ جو سات آسمانوں اور عرش کریم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب

اعزت کے لئے جو تمام جہانوں کا پائے والا ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

- اس کی سند میں ابو اسحاق اسماعیل "ملس" ہے اور ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔ اس کی سند "الدعوات الکبیر" لیلیۃ النبی (221) میں بھی ہے وہ بھی "ضعیف" ہے۔
- ۱۔ ابن لہیعہ جمہور محدثین کے نزدیک "ضعیف" اور "مختلط" ہے۔
 - ۲۔ محفوظ بن ابی توبہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رض سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا:
و ضعف امرہ جدا
”اس میں سخت ضعف پایا جاتا ہے۔“

(اعلل و معرفۃ الرجال برداۃ عبد اللہ: 5134)

تخریج:

مصنف ابن ابی شہیۃ: 10/269؛ مند امام احمد: 1/92؛ مند عبد بن حمید: 74؛ تاریخ

بغداد لیلیۃ النبی: 9/356؛ و صحابہ بن حبان: [6928]

ذِكْرُ الْاخْتِلَافِ عَلَىٰ أَيِّ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اس روایت کو بیان کرنے میں ابو اسحاق کی روایت کا (لفظی) اختلاف

26- أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ مَخْلِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ بْنُ حَيَّ أَخْوَهُ حَسَنٌ بْنُ صَالِحٍ. عَنْ أَيِّ إِسْحَاقَ الْمَدَانِيِّ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَلِيُّ «أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُنَّ عُفِرَ لَكَ مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ؟» تَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ»

26- سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے علی! کیا میں تم کو ایسی دعا نہ سکھائیں، جب تم دعا کرو تو اللہ تم کو بخش دے۔ حالانکہ تمہاری بخشش ہو چکی ہے تو آپ ﷺ نے ان کو یہ دعا سکھائی: [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ] ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بربار اور عزت والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو اونچا اور بڑا ہے۔ پاک ہے، اللہ جو سات آسمانوں اور عرش کریم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

- اس میں ابوسحاق "مس" ہیں جو کلفظ "عن" سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔
- 27۔ اخْبَرَنَا صَفَوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: «كَلِمَاتُ الْفَرَجِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
- 28۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ کشاریگی والے کلمات یہ ہیں: [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو اونچا اور بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بربار اور عزت والا ہے۔ پاک ہے اللہ جو سات آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

- اس میں ابوسحاق "مس" ہے جو کلفظ "عن" سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔
- 28۔ اخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلَيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، یعنی نَحْوَ حَدِیثِ خَالِدٍ
- 28۔ سیدنا علیؑ نے نبی کریم ﷺ سے حدیث خالد کی مثل روایت بیان کی ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

اس میں ابو سحاق "مس" ہیں جو کہ لفظ "عن" سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔

29- أَخْبَرَنِي عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلَيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلَيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَعْلَمُكُلَمَاتٍ إِذَا قُتِّهِنَ غُفْرَلَكَ عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

29- سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے علیؑ میں تم کو ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ جب تم اس دعا کو کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے، حالانکہ تمہاری بخشش ہو چکی ہے تو آپ ﷺ نے ان کو یہ دعا تعلیم دی: [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو اونچا اور بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بربار اور عزت والا ہے پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے اور تمام تعریفیں اللہ درب العزت کے لئے جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

اس میں ابو سحاق "مس" ہیں جو کہ لفظ "عن" سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔

30- أَخْبَرَنَا الْحُسَنِيُّ بْنُ حُرَيْثَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَضْلَنُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَنِيِّ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلَيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَعْلَمُكُلَمَاتٍ دُعَاءً إِذَا دَعَوْتَ بِهِ غُفْرَلَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُورًا لَكَ؟» قُلْتُ بِلَى قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»

قال أبو عبد الرحمن أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث لينس هذَا مِنْهَا، وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِمُخَالَفَةِ الْحُسَنِيِّ بْنِ وَاقِدٍ لِإِسْرَائِيلَ، وَلِعَلَيِّ بْنِ

صَالِحٌ، وَالْحَارِثُ الْأَغْوَرُ لَيْسَ بِذَكَرٍ فِي الْحَدِيثِ، وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ أَصْلَحَ مِنْهُ ۖ ۝۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے علی! کیا میں تم کو ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ جب تم اس دعا کو کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے، حالانکہ تمہاری بخشش ہو چکی ہے۔ سیدنا علیؑ نے عرض کیا: کیوں نہیں، آپ ﷺ نے ان کو یہ دعا سکھائی: [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ] ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو اونچا اور بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بربار اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ امام نسائیؓ فرماتے ہیں: ابو حساق نے حارث الاعور سے ان چار احادیث کے علاوہ کچھ نہیں سن۔ یہ حدیث ان میں سے نہیں ہے۔ ہم نے صرف حسین بن وادی اسرائیلی اور علی بن صالح کے اختلاف کی وجہ سے نقل کیا ہے۔ حارث الاعور حدیث میں کچھ نہیں ہے اور عاصم بن فضیر اس سے زیادہ معترض ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

ابو حساق ”ملس“ ہے، سماع کی تصریح نہیں کی۔

فائدہ:

مولیٰ علیؑ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے مصیبت کے وقت یہ دعا سکھائی:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبِّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ

”اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بربار اور عزت والا ہے، پاک ہے۔ بڑی برکت والا ہے، اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدِ امْتَحَنَ

اللَّهُ قَلْبَ عَلَيِّ لِلإِيمَانِ»

نبیٰ کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے علیٰ (عليه السلام) کے ایمان قلب کا امتحان لیا ہوا ہے“

31- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ جِيرَانَكَ، وَحُلْفَاءَكَ، وَإِنَّ أَنَاسًا مِنْ عَبِيدِنَا فَذَ أَنُوكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي الدِّينِ، وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْفِقْهِ، إِنَّمَا فَرُوا مِنْ ضَيَاعِنَا، وَأَمْوَالِنَا، فَأَرْدَذُهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَا تَقُولُ؟» فَقَالَ: «صَدَقُوا، إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ، وَأَحَلَافُكَ» فَتَعَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِعَلَيِّ: «مَا تَقُولُ؟» قَالَ: صَدَقُوا، إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ، وَحُلْفَاؤكَ، فَتَعَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ «وَاللَّهِ لَيَنْعَثِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رِجُلًا مِنْكُمْ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإِيمَانِ، فَلَيَضْرِبَنَّكُمْ عَلَى الدِّينِ، أَوْ يَضْرِبَ بَعْضَكُمْ» . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا» .

وَلَكِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَخْصِفُ النَّعْلَ» وَقَدْ كَانَ أَغْطَى عَلَيَا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا

۳۱۔ سیدنا علی الرضا علی اللہ عزوجلہ سے روایت ہے کہ قریش کے کچھ لوگ بنی کریم ملکہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے محمد علیہ السلام! بلا شہم آپ کے ہمسائے اور حلیف ہیں۔ ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آگئے ہیں ان کو نہ تو دین میں کوئی رغبت ہے اور نہ کوئی اس (دین) کو سمجھنے کا شوق رکھتا ہے، یہ لوگ صرف ہماری خدمت اور مال کی حفاظت ہی سے بھاگ کرائے ہیں اس لیے ان کو ہمیں واپس لوٹا دیں آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر بن عبد اللہ سے فرمایا: تم اس بارے میں کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا: یہ سچ کہتے ہیں کہ بلاشبہ یہ آپ علیہ السلام کے ہمسائے اور حلیف ہیں۔ اس پر بنی کریم ملکہ علیہ السلام کا چہرہ انور (غصے سے) متغیر ہو گیا: پھر آپ علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب سے فرمایا: تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: یہ سچ کہتے ہیں کہ بلاشبہ یہ آپ کے ہمسائے اور حلیف ہیں اس پر پھر بنی کریم ملکہ علیہ السلام کا چہرہ انور (غصے سے) متغیر ہو گیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے قریش کی جماعت! اللہ کی قسم! اضدِ الرَّدْ تھاری طرف ایک ایسے شخص کو بھیج گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان قلب کا امتحان لیا ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ دین پر لڑے گا یا تم میں سے بعض کو دین پر مارے گا۔ سیدنا ابو بکر بن عبد اللہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ السلام! وہ میں ہوں۔ فرمایا: نہیں۔ سیدنا عمر فاروق علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ السلام! وہ میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: نہیں: بلکہ وہ شخص جو تو ہے گا تو آپ علیہ السلام نے اپنے نعلین مبارک سیدنا علی بن ابی طالب کو گا نہیں کے لیے عطا فرمائے۔

تحقیق:

[اسنادہ ضعیف]

شریک بن عبد اللہ القاضی "ملس" ہے، سماع کی تصریح ثابت نہیں ہے۔
 فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل (1105) کی جس سند میں شریک نے سماع کی تصریح کی ہے۔ وہ
 یحییٰ بن عبد الحمید الحمامی کی وجہ سے ضعیف ہے جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

تخریج:

سنن الترمذی:، 3715؛ قال "حسن صحیح"؛ مسند الامام احمد: 1/155؛ شرح معانی الآثار للطحاوی: 4/359؛ المسند رک للحاکم: 4/298؛ وقال "صحیح علی شرط مسلم"؛ ووافقتہ الذہبی۔

سنن ابی داؤد (2700) میں شریک کی متابعت ابا بن صالح نے کر رکھی ہے مگر یہ متابعت چند اس مفہید نہیں، کیونکہ اس میں محمد بن اسحاق "مسنون" ہے جو کہ لفظ "عن" سے روایت کر رہا ہے۔

مسند بزار (905) میں شریک کی متابعت سلمہ بن کہیل نے کی ہے لیکن اس میں سیحی بن سلمہ بن کہیل متعدد ہے۔

(تقریب التہذیب لا بن ججر: 7561)

الجمع الاوسط للطبرانی (3862) میں شریک کی متابعت قیس بن رمانہ نے کی ہے جو کہ مجہول راضی ہے۔ نیز اس سند میں یزید بن راشد غنوی کی توثیق نہیں مل سکی۔ یہ روایت مسند حسن "مسند الامام احمد" (82, 33, 31/3) میں آتی ہے، اسے امام ابن حبان (6937) نے "صحیح" کہا ہے اور امام حاکم (3/123, 122/3) فرماتے ہیں: "هذا احادیث صحیح علی شرط الشیخین" حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طرح ایک حسن سنن تاریخ بغداد (1/433, 8/144) اور تاریخ ابن عساکر (42/342) میں بھی آتی ہے۔

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيِّ «إِنَّ اللَّهَ

سَمِهْدِيٌّ قَلْبَكَ، وَيُثِبِّتُ لِسَانَكَ»

نبی کریم ﷺ کا سیدنا علیؑ کے متعلق یہ فرمان:

”عَنْ قَرِيبِ اللَّهِ تِيرَدَ دَلْ كَوْهْدَاءِتْ سَنْوَازَ كَاوَرْ

تِيرَى زَبَانَ كُوْثَابَتْ قَدْمَى عَطَافَرَمَائَى گَا،“

32۔ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْرِيِّ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: بَعْنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَيْمَنِ، وَأَنَا شَابٌ حَدِيثُ السِّينِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ «إِنَّكَ بَعْثَتَنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَخْدَاثٌ، وَأَنَا شَابٌ حَدِيثُ السِّينِ» قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَمِهْدِيٌّ قَلْبَكَ، وَيُثِبِّتُ لِسَانَكَ، فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءِ بَيْنِ اثْنَيْنِ»

32۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن بھیجا۔ میں اس وقت کم عمر نوجوان تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جن میں بڑے حادثات رونما ہوئے ہیں اور میں ابھی نوجوان ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تیرے دل

کی راہنمائی کرے گا اور تیری زبان کو ثابت تدبی عطا فرمائے گا (سیدنا علی ڈین فرماتے ہیں اس کے بعد) میں کبھی دو (آدمیوں یادو فریقوں) کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے شک میں نہیں پڑا۔

تحقیق

[اسناد ضعیف]

ابو بخری راوی کا سیدنا علی ڈین سے سامنے نہیں ہے۔ لہذا یہ انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ لہذا امام حاکم چحہ (3/135) کا سے شیخین کی شرط پر صحیح کہنا اور حافظ ذہبی چحہ کا ان کی موافقت کرنا صحیح نہیں ہے۔

تخریج:

الطبقات لا بن سعد: 2/337؛ مند الامام احمد: 1/83؛ مند عبد بن حمید: 94

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

اس حدیث کو بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی) اختلاف

33۔ أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ حَشْرٍمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ الْأَغْمَشِ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْرَى، عَنْ عَلَيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنَ فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ أَسَنَّ مِنِّي فَكَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ سَمِّدِي قَلْبُكَ، وَيُئْتِي
لِسَانَكَ» قَالَ: «فَمَا تَعَايَنْتُ فِي حُكُومَةِ بَعْدِ»

34۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بہن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑی ہے (یعنی وہاں ضعیف العروگ ہیں جو کافی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں) میں ان کے درمیان بھلا کیسے فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عنقریب اللہ تعالیٰ تیرے دل کی راہنمائی کرے گا اور تیری زبان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ سیدنا علیؑ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی فیصلہ کرتے ہوئے شک نہیں پڑا۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

اس کی سند ”ضعیف“ ہے اس میں وہی علیت نعمت ہے جو سابقہ حدیث میں تھی۔

34۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّفِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْرِيِّ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: بَعْثَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنَ لِأَفْضِيَ بِنَاهِمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَسِدِّدْ لِسَانَهُ» فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءِ
بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجِلِسِي هَذَا

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُغْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلَيْا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو الْبَخْرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلَيْيِ شَيْئًا

35۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اہل یمن کی طرف بھیجا تاکہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ مجھے فیصلہ کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے پر مارا اور دعا فرمائی: اے اللہ اس کے دل کی راہنمائی فرما اور اس کی زبان کو سلامتی عطا فرم۔ (سیدنا علیؑ فرماتے ہیں اس کے بعد) مجھے کبھی دو (آدمیوں یادو فریقوں) کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے شک نہیں ہوا اس وقت سے لے کر آج تک میں اسی مند پر بیٹھا ہوں۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس حدیث کو امام شعبہ نے عمر بن مرہ عن ابی البختی ری کی سند سے نقل کیا ہے کہ ابو البختی ری کہتے ہیں: مجھے یہ حدیث اس آدمی نے بیان کی ہے جس نے سیدنا علیؑ سے بیان کی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ابو البختی ری نے سیدنا علیؑ سے کچھ نہیں سن۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

اس کی سند "ضعیف" ہے اس میں وہی علت ضعف ہے جو اور پرواہی حدیث میں تھی۔

35۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَزْبٍ، عَنْ حَنْشِي بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: بَعْثَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمِنِ وَأَنَا شَابٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌ إِلَى قَوْمٍ ذَوِي أَسْنَانٍ لَا قُضِيَّةَ بَيْنَهُمْ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَمِّهِدِي قَلْبَكَ، وَيُبَيِّنُ لِسَانَكَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِي بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ» قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءً بَعْدَ

۳۵۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے اہل مکن کی طرف [قاضی بنا کر] بھیجا، اس وقت میں ایک نوجوان آدمی تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے ایک ایسی قوم کی طرف فیصلہ کرنے والا بنا کر پہنچ رہے ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑی ہے (یعنی وہاں ضعیف العمر لوگ ہیں جو کافی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں) مگر مجھے فیصلہ کرنے کا علم نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے پر رکھا اور فرمایا: عنقریب اللہ تیرے دل کو ہدایت سے نوازے گا اور تیری زبان کو ثابت قدی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے علی جب تیرے پاس دو (آدمی یا دو فریق) جھگڑا لے کر آسیں تو ان دونوں کے درمیان اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک کتم پہلے (آدمی یا فریق) کی بات کے بعد دوسرا (آدمی یا فریق) سے بھی بات سن نہیں لیتے، جب تم ایسا کرو گے تو تم پر فیصلہ واضح ہو جائے گا۔ سیدنا علیؑ فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

حنش بن معتمر راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

ترجمہ:

منند الامام احمد: 111, 96/1؛ سنن ابو داؤد: 3582؛ سنن الترمذی: 1331؛ قال حسن:

زوائد الفضائل للقطبي: 1096

ذِكْرُ الْخِتَالِفِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اس روایت کو بیان کرنے میں ابو اسحاق کا (لفظی) اختلاف

36۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضْرِبٍ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: «إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسْنُ مِنِّي لِأَفْضِيَ بَيْنَهُمْ» فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَمِهِدِي قَلْبِكَ، وَبَيْتُ لِسَائِكَ» قَالَ شَيْبَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ حَبَشَيْهِ، عَنْ عَلَيِّ

36۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے اہل میں کی طرف بھیجا [اس وقت میں ایک نوجوان آدمی تھا۔] میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں [یعنی وہاں ضعیف العرلوگ ہیں جو کافی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں] جو عمر میں مجھے سے بڑی ہے، میں ان کے درمیان بھلا کیسے فیصلہ کروں گا؟، آپ ﷺ نے فرمایا: غقریب اللہ تیرے دل کو ہدایت سے نوازے گا اور تیری زبان کو ثابت قدی عطا فرمائے گا۔

تحقیق

[اسنادہ ضعیف]

ابو اسحاق سعیی مدوس رواوی ہے، سماع کی تصریح نہیں کی۔

تخریج:

مند الامام احمد: 156، 88؛ الطبقات لابن سعد: 2/337

37۔ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ حَبَشِيِّ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى شَيْوِخٍ ذُوِي أَسْنَانٍ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَصِيبَ» قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَيِّئَتْ لِسَانَكَ، وَهَمْدِي قَلْبَكَ»

۷۳۔ سیدنا علی ڈین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے ضعیف العروگ کی طرف بھیج رہے ہیں [جو کافی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں] مجھے یہ خدا شہ ہے کہ میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاؤں گا تو آپ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تیری زبان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور تیرے دل کی راہنمائی کرے گا۔

تحقیق:

[اسنادہ ضعیف]

ابو اسحاق سبیعی مدرس رواوی ہے، سماع کی تصریح نہیں کی۔ عمرو بن جبیش زبیدی رواوی مجهول ہے، سوائے امام ابن حبان (الشتابات: 173/5) کے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔

اس روایت کا ایک اور ضعیف شاہد زوائد مند الامام احمد (150/1 و صحیح ابن حبان: 5065) میں آتا ہے۔ سماک بن حرب رواوی عکرمه سے بیان کر رہا ہے۔ سماک کی عکرمه سے روایت منکر ہوتی ہے۔ اسی طرح اخبار القضاۃ للوکیج میں بھی اس کے ضعیف شواہد ہیں۔ وہ یوں کہ ایک سند میں سفیان ثوری کی تدلیس ہے۔ دور روایتوں میں مسلم بن کیسان الاعور جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں محمد بن عبد اللہ بن ابی رافع رواوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ ایک روایت میں عمرو بن ثابت متروک موجود ہے۔

تخریج:

منسند ابی یعلیٰ: 239؛ الطبقات لا بن سعد: 2/337

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمِرْتُ بِسَدِّ

هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرِ بَابِ عَلِيٍّ»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”مجھے علی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علاوہ ان تمام دروازوں کو بند کروانے کا حکم دیا گیا ہے“

38۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ لِنَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ» فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَنَاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرِ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فِيهِ قَاتِلُكُمْ، وَاللَّهُ مَا سَدَّذُتُهُ، وَلَا فَتَحْتُهُ، وَلَكِنِّي أُمِرْتُ بِسَيِّئِهِ فَأَتَبْغِثُهُ»

38۔ سیدنا زید بن ارقم (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علی کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے ان تمام دروازوں کو بند کر دو، بعض لوگوں نے اس کے متعلق کچھ بتیں کی [جب رسول اللہ ﷺ کو خبر ہوئی تو]

آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شابیان کرنے کے بعد فرمایا: البتہ میں نے حکم دیا تھا کہ علیؑ کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے ان تمام دروازوں کو بند کرو، اس پر کچھ نے اعتراض کیا ہے مگر اللہ کی قسم میں نے ان کے دروازے کو بند کروا دیا ہے اور نہ کھلوایا ہے، مگر میں نے تو صرف اس بات کی پیروی کی ہے۔ جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابو عبد اللہ میمون راوی جمیون محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔

تخریج:

مند الامام احمد: 4/369؛ المستدرک للحاکم: 3/125 و قال: "صحیح البخاری، و تعلیم الزہبی"

فائدہ:

اس کے معارض ایک متفق علیہ حدیث بھی ہے کہ سیدنا ابوسعید خدری ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا يَبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابًا إِلَّا سَدَّ إِلَّا بَابًا أَبْنَى.

"مسجد میں کوئی دروازہ نہ چھوڑا جائے، مگر بند کر دیا جائے، سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔"

(صحیح البخاری: 3654، صحیح مسلم: 2383)

ان دونوں روایات کی تطبیق یہ ہے کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کتنے ہی گھر تھے۔ ان کے دور دروازے تھے۔ ایک دروازہ باہر کی طرف تھا اور ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے مسجد کی طرف کھلنے والے بھی دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا، لیکن سیدنا ابو بکر ؓ کو مستثنیٰ قرار دیا کہ

ان کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ رہاسیدنا علی صلی اللہ علیہ وسالم کا دروازہ تو وہ ایک ہی دروازہ تھا، جو مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ باہر کی طرف دروازہ تھا ہی نہیں، جیسا کہ روایت کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔

سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسالم کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا تھا، وہ بند نہیں ہوا۔ اس کی وجہاں علم نے کچھ یوں بیان کی ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (۹۱۱-۸۲۹ھ) لکھتے ہیں:

قال العلماء: هذا إشارة إلى الخلافة۔

”علمائے کرام نے کہا ہے کہ یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا۔“

(تاریخ اخلاقناء، ص: 61)

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۵۲ھ) اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے لکھتے ہیں:

فِيهِ ذَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ، إِذَا الْمُضْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَمَ عَنِ النَّاسِ كُلَّمَا أَطْمَاعَهُمْ فِي أَنْ يَكُونُوا خُلَفَاءَ بَعْدَهُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ بِقَوْلِهِ: «سُدُّوا عَيْنَيْ كُلَّ خُوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خُوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

”اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم کے بعد خلیفہ سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسالم تھے، کیونکہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسالم نے خلافت کے بارے میں سب لوگوں کا طمع یہ کہ ختم کر دیا کہ: مجھ سے مسجد میں ہر کھڑکی بند کر دو، سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔“

(صحیح ابن حبان، تحت حدیث: 6860)

ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ (م ۴۳۹ھ) لکھتے ہیں:

كما اختصَّ هو أبا بكر بما لم يخصَ به غيره ، وذلك أنَّه جعل بابه في المسجد ليخالفه في الإمامة ليخرج من بيته إلى المسجد كما كان الرسول يخرج ، ومنع الناس كُلَّهم من ذلك دليل على

خلافة أبي بكر بعد الرسول -

”سیدنا ابوکبر ؓ کی خلافت کی ایک دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابوکبر ؓ کو اس چیز کے ساتھ خاص کیا ہے، جس کے ساتھ ان کے علاوہ کسی کو خاص نہیں کیا۔ وہ اس طرح کہ ان کا دروازہ مسجد میں رکھا تاکہ ان کو امامت میں اپنا خلیفہ بنائیں۔ اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے مسجد میں نکل سکیں، جس طرح رسول اکرم ﷺ نکلتے تھے۔ آپ ﷺ نے سب لوگوں کو اس سے روک دیا۔ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد سیدنا ابوکبر ؓ خلیفہ ہوں گے۔“

(شرح البخاری لاہور بطال: 3/142)

علامہ ابن رجب حنفی (795-732ھ) اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

وذكر في هذه الخطبة تخصيص أبي بكر من بين الصحابة كلهـم بالفضل ، وأوـما إلى خلافته بفتح بابه إلى المسجد ، وسد أبواب الناس كـلهـم ، نـفي ذلك إشارة إلى أنه هو القائم بالإمامـة بعده فإن الإمام يـحتاج إلى استـطراق المسـجد ، وـذلك من مصالـح المصـلين فيه -

”نبی اکرم ﷺ نے اس خطبہ میں سب صحابہ کرام میں سیدنا ابوکبر ؓ کی خصوصی فضیلت کا ذکر کیا ہے اور مسجد میں ان کے دروازے کے کھلنے سے ان کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے اور سب لوگوں کے دروازے بند کر دیئے ہیں۔ اس نـفي مـیں اـشارہ ہے کہ آپ ؓ کیلے ہی آپ ﷺ کے بعد خلافت کے اہل ہوں گے، کیونکہ امام مسجد میں زیادہ آنے کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اسی میں نمازوں کی مصلحت ہوتی ہے۔“

(فتح الباری لاہور جب: 2/547)

حافظ خطابی بُشِّیر (۳۱۹-۳۸۸ھ) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

وفي أمره بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد غير بابه اختصاص
شديد له ، وأنه أفرده بأمر لا يشاركه فيه أحد ، وأول ما
يصرف التأويل فيه الخلافة . وقد أكد الدلالة عليها بأمره إيهاد
بإمامية الصلاة التي لها بني المسجد ، ولأجلها يدخل إليه من
أبوابه . ولا أعلم دليلا في إثبات القياس والرد على نفاته أقوى
من إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر . مستدلين في ذلك
باستخلاف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فِي أَعْظَمِ أُمُورِ الدِّينِ
وهو الصلاة ، وإقامته إيهاد فهمها مقام نفسه . فقاموا عليها سائر
أمور الدين

”آپ ﷺ کے دروازے کے علاوہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے
کے نبی حکم میں سیدنا ابو بکر رض کی بڑی خصوصیت موجود ہے۔ آپ ﷺ نے ان
کو ایسے معاملے میں انفرادی حیثیت دی ہے کہ اس میں کوئی ان کا شریک نہیں۔ اس
کی سب سے پہلی تغیر خلافت ہی ہے۔ اس کی دلالت کو مزید پختہ نبی
اکرم ﷺ کے ان کو نماز کی امامت کے حکم نے کر دیا ہے۔ نماز کے لیے ہی تو مسجد
بنائی گئی تھی، اسی نماز کے لیے اس کے دروازوں میں سے داخل ہوا جاتا ہے۔ میں
اس قیاس کے اثبات اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے رد میں خلافت ابو بکر
پر صحابہ کرام کے اجماع سے بڑھ کر کوئی قوی دلیل نہیں جانتا۔ صحابہ کرام اس بات
سے دلیل لے رہے تھے کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز جیسے سب سے بڑے دینی
معاملے میں اپنا نسب بنا دیا ہے اور اپنے مصلائے امامت پر فائز کیا ہے۔ انہوں
نے اس نماز پر باقی امور دین کو قیاس کر لیا۔“

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ
وَأَخْرَجْتُكُمْ بِإِلَهٍ أَدْخَلَهُ وَأَخْرَجَكُمْ»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”میں نے یہاں علی (رضی اللہ عنہ) کو داخل نہیں کیا اور تم کو نکالا نہیں ہے بلکہ
اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل کیا اور تم کو نکالا ہے،“

39۔ قَرَأَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ لُوئِنْ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ،
وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ
جُلُوسٌ، فَدَخَلَ عَلَيْ فَلَمَّا دَخَلَ خَرَجُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا تَلَاقُوا فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا
أَخْرَجْنَا وَأَدْخَلَهُ، فَرَجَعُوا، فَدَخَلُوا فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ بِإِلَهٍ
أَدْخَلَهُ وَأَخْرَجَكُمْ»

۹۳۔ سیدنا سعد بن ابی وقادص ؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس تھے اور کچھ لوگ
بھی وہاں موجود تھے۔ سیدنا علی ؓ تشریف لائے جب وہ اندر داخل ہوئے تو لوگ باہر چلے گئے اور باہر

جا کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے۔ اللہ کی قسم! ہمیں (نبی کریم ﷺ نے) نکالا نہیں ہے اور ان (سیدنا علی) کو داخل نہیں کیا ہے تو وہ واپس اندر چلے گئے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے یہاں علی کو داخل نہیں کیا اور تم کو یہاں سے نکالا نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو داخل کیا اور تم کو نکالا ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

[مند البر ار، کشف الاستار: 2556؛ طبقات الحدیثین باصححان لابی اشخ: 165؛ تاریخ
اصححان لابی نعیم: 2/177؛ تاریخ بغداد للخطیب: 3/219، 220؛ اس کی سند سفیان بن عینہ کی تدلیس
کی وجہ سے ضعیف ہے، اس روایت کے بارے میں امام احمد بن حنبل رض فرماتے ہیں: حدیثنا منکرا
ماله اصل، ”یہ حدیث منکر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔“] [اعلل والمعرفة الرجال لاحمد روایۃ
المرزوqi: 280] جس میں سفیان نے سماع کی تصریح کر رکھی ہے، وہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف
ہے۔

تنبیہ: طبع الکبر للطبرانی [12/114] میں اس کا ایک سخت ترین ضعیف شاہد بھی ہے۔ جس میں حسین
اشتر، کثیرالنواء اور ابو عبد اللہ میمون بصری تینوں راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ محمد بن حماد
بن عمر واژدی راوی کی توثیق نہیں مل سکی۔

40- أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ يَعْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ مَكَّةَ فَلَقِيتُ سَعْدَ بْنَ
أَبِي وَقَاصٍ فَقُلْتُ: «هَلْ سَمِعْتَ لِعَلَيِّ، مَنْقَبَةً؟» قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنُودِيَ فِينَا لَيْلًا: لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا آلَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآلَ عَلَيِّ قَالَ: «فَخَرَجْنَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنَّا هُوَ عَمْرٌ» فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَجْتَ أَصْحَابَكَ وَأَعْمَامَكَ وَأَشْكَنْتَ هَذَا الْفَلَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا أَمْرَتُ بِإِخْرَاجِكُمْ وَلَا بِإِسْكَانِ هَذَا الْفَلَامِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَمْرَبِهِ» قَالَ فِطْرٌ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّقَيْمٍ، عَنْ سَعْدٍ: أَنَّ الْعَبَاسَ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سَدَّدْتَ أَبْوَابَنَا إِلَّا بَابَ عَلَيْهِ» فَقَالَ: «مَا أَنَا فَتَحْتُمَا وَلَا سَدَّدْتُمَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ، لَيْسَ بِذَلِيلٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ، لَا أَغْرِفُهُ وَلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الرُّقَيْمِ،

۸۰۔ حارث بن مالک رض سے روایت ہے کہ میں مکہ المکرہ آیا تو سیدنا سعد بن ابی و قاص رض سے ملا ان سے کہا: کیا آپ نے مناقب سیدنا علی رض کے متعلق کچھ سنائے۔ انہوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسجد میں تھے تورات کے وقت ہمیں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی آل اور سیدنا علی رض کی آل کے علاوہ جو بھی مسجد میں ہے وہ باہر چلا جائے۔ ہم باہر چلے گئے، صحیح ہوئی۔ سیدنا عمر رض آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے اپنے صحابہ اور پچاؤں کو باہر نکال دیا ہے اور اس بیچ کو یہاں رہنے دیا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے آپ کو یہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا اور اس لڑکے کو یہاں نہیں کوئی کہا۔ بلاشبہ الشرب العزت نے اس کا حکم دیا ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سیدنا سعد بن ابی و قاص رض سے روایت ہے کہ سیدنا عباس رض نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ ﷺ نے سیدنا علی رض کے علاوہ، ہم سب کے دروازے بند کروادیئے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہ میں (اپنی مرضی سے) کھولتا ہوں اور نہ (اپنی مرضی سے) بند کرتا ہوں۔ [یعنی یہ الشرب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔]

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں راوی عبد اللہ بن شریک کچھ بھی نہیں ہیں اور میں حارث بن مالک اور عبد اللہ بن رقیم کو میں نہیں پہچانتا۔

تحقیق

[اسناد ضعیف]

حارت بن مالک راوی "مجہول" ہے۔ خود امام نسائی ہبنت اللہ فرماتے ہیں: "لا اعرف" حافظ ذہبی ہبنت اللہ فرماتے ہیں: "لا اعرف" (میزان الاعتدال: 441/1: 1) حافظ ابن حجر ہبنت اللہ نے "مجہول" قرار دیا ہے۔
 (تقریب البهذب: 1046)

تخریج:

مسند الشاشی: 63؛ تاریخ دمشق لابن عمار: 117/42

- 41۔ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّقَيْمٍ، عَنْ سَعْدٍ، تَحْوِةً
 ۲۱۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رض سے اسی کی مثل روایت بیان کی گئی ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف جدا]

عبداللہ بن رقیم مجہول ہے، خود امام نسائی ہبنت اللہ فرماتے ہیں:

"لا اعرفه"

"میں اس کو نہیں پیچا ستا۔"

(اسناد الکبری: 8371)

تخریج:

مسند الامام احمد: 175/1؛ الاباطیل للجورقانی: 126

اس روایت کے اور بھی درج ذیل طرق ہیں:

طریق نمبر ۱:

مسلم عن خیثة عن سعد

[مسند ابی یعلی: 703، المسند رک للحاکم: 3/116]

تبصرہ:

یہ سند "ضعیف" ہے۔ مسلم بن کیسان ملائی راوی جمہور محدثین کے نزدیک "ضعیف" ہے۔

طریق نمبر ۲:

الحکم بن عتیّہ عن مصعب بن سعد عن ابیه۔

[المجمع الاوسط للطبرانی: 3930]

تبصرہ:

یہ سند ضعیف ہے۔

1۔ حکم بن عتیّہ راوی "ملس" ہے، سماع کی تصریح نہیں کی۔

2۔ معاویہ بن شریح کو امام ابن حبان (الافتات: 7/469) کے علاوہ کسی نے ثقہ نہیں کہا۔

42۔ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ أَبِي

بْلَجِ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو بْلَجِ هُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ

قَالَ: «أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْوَابَ الْمَسْجِدِ فَسُدِّدَتْ إِلَّا بَابَ عَلَيِّ»

۳۲۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم صادر فرمایا: علی کے

علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دو۔

تحقیق

[اسنادہ حسن]

تخریج:

سنن الترمذی: 3732؛ المجمع الكبير للطبرانی: 99/12

43۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّهَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَضَاعُ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: وَسْدَأُبُوابُ
الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلَيْهِ فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنْبٌ، وَهُوَ طَرِيقٌ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ
غَيْرُهُ۔

۳۳۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رض فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رض کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے نام
دروازوں کو اس لیے بند کر دیا گیا کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہوتے تھے (یعنی وہ کسی دوسری
گلہ جانے کے لیے حالت جنابت میں مسجد سے گزرتے تھے) کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرा
راستہ نہیں تھا وہی ایک ان کا راستہ تھا۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

منسند الامام احمد: 1/331, 330؛ المستدرک للحاکم: 3/132, 134، وقال: "صحیح الاسناد"

ووافقه الذهبي

ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی کریم ﷺ کی نظر میں سیدنا علیؑ کا مقام

44۔ أَخْبَرَنَا إِشْرُونْ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَمَّا غَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَوةَ تَبُوكَ خَلْفَ عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا فِيهِ: مَلَهُ وَكَرَهَ صُحْبَتَهُ، فَتَبَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَّهُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَفْتَنِي فِي الْمَدِينَةِ مَعَ الدَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا: مَلَهُ وَكَرَهَ صُحْبَتَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «إِنَّمَا خَلَفْتُكَ عَلَى أَهْلِي، أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ غَيْرَ أَنَّهُ لَا تَنِي بَعْدِي»

۲۳۔ سیدنا سعد بن ابی وقاریؓ سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم ﷺ نے لشکر تیار کیا۔ سیدنا علیؑ کو پیچھے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اس پر لوگ کہنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ ان سے ناراض ہیں اور آپ ﷺ نے ان کی صحبت کو ناپسند فرمایا ہے تو سیدنا علیؑ نبی کریم ﷺ کے پیچھے آئے اور راستے میں آپ ﷺ سے مل گئے، عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں: آپ ﷺ ان سے ناراض ہیں اور ان کی صحبت کو ناپسند فرمایا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو فرمایا: اے علیؑ میں نے تم کو اپنے گھروالوں کے

لیے پچھے چھوڑا ہے کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

تحقیق

[اسناده ضعیف]

قاده ملک ہے، سماع کی تصریح نہیں کی۔

તخریج:

منابی یعلیٰ: 738؛ تاریخ بغداد الخطیب: 342/1

- 45 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاً بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى»
- ٤٥ - سیدنا سعد بن ابی و قاص ڏانچے سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا علیؑ کو فرمایا: تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی۔

تحقیق:

[اسناده صحیح]

تخریج:

سنن الترمذی: 3731، قال: "هذا حديث حسن صحيح"

- 46 - أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّاً بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُضْعِفٍ، أَنَّ الدَّرَاؤِزِيَّ حَدَّثَنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي

وَقَاصٌ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةُ؟»

۳۶۔ سیدنا سعد بن ابی وقارث میں سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا علیؑ کو فرمایا: کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

تحقیق:

[اسناد صحیح]

تخریج:

التاریخ الکبیر للجیماری: 115/1

۴۷۔ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْنَعٍ، عَنِ الدَّرَاؤِذِيِّ، عَنْ هَاشِمٍ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ حَرَجَ عَلَيْهِ يُشَيْعَهُ، فَبَكَّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَرْكُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةُ؟»

۳۷۔ سیدنا سعد بن ابی وقارث میں سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو سیدنا علیؑ آپ ﷺ کے پیچھے آئے اور روتے ہوئے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ مجھے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے علیؑ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میرے ساتھ تیری نسبت ایسی ہی ہے جیسا کہ موسیٰ (علیہ السلام) کی ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

تحقیق و تخریج:

[صحیح]

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اس حدیث کو بیان کرنے میں محمد بن منکدر کا (لفظی) اختلاف

48۔ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ذَاوْفُوذُ بْنُ كَثِيرِ الرَّقِيقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْبِطِ، عَنْ سَعْدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مَنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي بَعْدِي»

38۔ سیدنا سعد بن ابی و قاص دیاشور سے روایت ہے کہ بنی کرم مکانی کو فرمایا: تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

تحقیق و تخریج:

[استادہ ضعیف والحدیث صحیح]

داود بن کثیر رتی مجہول ہے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔ امام ابو حاتم الرازی [الجرح والتعديل لابن ابی حاتم: 3/423] حافظ ذہبی (میزان الاعتدال: 19/2) اور حافظ ابن حجر (تقریب التہذیب: 1810) نے اسے مجہول قرار دیا ہے۔

49۔ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَفْرَوْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسْبِطِ:

أخبرني إبراهيم بن سعد، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ سَعْدًا وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ» قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا أَرْضَ حَتَّى أَتَيْتُ سَعْدًا فَقُلْتُ: «شَيْنَا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُكَ عَنْكَ» قَالَ: وَمَا هُوَ؟ وَانْتَهَرْتُ، فَقُلْتُ: أَمَا عَلَى هَذَا فَلَا، فَقَالَ: مَا هُوَ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: «هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يَقُولُ لِعَلِيٍّ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَشَارَ إِلَى أَذْنِيهِ، وَإِلَّا فَاسْكَنْتَا، لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالِفُهُ يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونَ، فَرَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَتَابِعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَلَيُّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُذْعَانَ

۔ ۲۹۔ سیدنا سعد بن ابی و قاص رض سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا علی رض کو فرمایا: کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ سعید بن مسیب رض کہتے ہیں میں خوش نہ ہوا یہاں تک کہ خود سیدنا سعد بن ابی و قاص رض کے پاس آیا اور کہا: آپ کے بیٹے نے مجھے ایک حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے سیدنا علی رض کے بارے میں یوں فرماتے ہوئے سنائے؟ میں نے عرض کیا: کیا آپ رض نے رسول اللہ ﷺ کو سیدنا علی رض کے بارے میں یوں فرماتے ہوئے سنائے؟ انہوں نے کہا: ہاں اور اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خاموش ہو جائیں (اگر میں نے نہ سنایا) بلاشبہ میں نے رسول اللہ رض کو فرماتے ہوئے سنائے۔

امام نسائی رض فرماتے ہیں: یوسف بن ماجشون نے اس کی مخالفت کی ہے، اس نے اس روایت کو محمد بن منکدر عن سعید بن مسیب عن عامر بن سعد عن ابیہ کی سند سے بیان کیا ہے۔ اس روایت پر عامر بن سعد کی متابعت علی بن زید بن جدعان نے کر رکھی ہے۔

تحقیق:

[اسنادہ صحیح]

یہ حدیث متواتر ہے: (قطف الا زھار المتناشرة للسيوطی ص: 281، نظم المتناشر للكتابی ص: 206، 207)

تخریج:

صحیح مسلم: 2404

50۔ أَخْبَرَنَا رَجَبٌ بْنُ يَعْمَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَّارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلَيِّ: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا تَنِي بَعْدِي» قَالَ: سَعِيدٌ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهِ بِذَلِكَ سَعْدًا فَاتَّئِثْتُهُ فَقُلْتُ: مَا حَدَّيْتُ حَدَّتِي بِهِ عَنْكَ عَامِرٌ فَأَدْخَلَ إِصْبَاعِيَّهُ فِي أَذْنِيَّهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا فَاسِكُتَنَا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ شُعْبَةً، عَنْ عَلَيِّ بْنِ زَيْدٍ فَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ

50۔ سیدنا سعد بن ابی وقارص ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علیؑ سے فرمایا: کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبی نہیں ہے۔ سیدنا سعید بن مسیبؓ کہتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ اس روایت کو میں خود سیدنا سعد بن ابی وقارص ﷺ سے مل کر سنوں گا، میں نے ان سے ملاقات کی اور جو روایت مجھے عامر نے بیان کی تھی وہ ان سے ذکر کی، انہوں نے اپنے دونوں انگلیاں اپنی کانوں میں لیں پھر فرمایا: [یہ دونوں کان] خاموش [بہرے] ہو جائیں اگر میں نے اس روایت کو نبی کریم ﷺ سے نہ سنتا ہو۔

تحقیق تخریج:

[اسناد ضعیف]

علی بن زید بن جدعان جمہور محدثین کے نزدیک "ضعیف" ہے، مسندا امام احمد [1/177] والی مسندا علی بن زید بن جدعان کے ضعف کے ساتھ ساتھ قادة کی تدليس کی وجہ سے ضعیف ہے۔

51۔ اخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ زَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسْتَبِ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مَنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» فَقَالَ أَوْلَى مَرَّةً:
«رَضِيَتْ رَضِيَتْ، فَسَأَلَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ» فَقَالَ: «بَلَى، بَلَى»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا أَغْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمَاجْشُونِ
عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ، غَيْرِ إِبْرَاهِيمِ بْنِ سَعْدٍ
عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ

51۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علی رض کو فرمایا:
تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی تو سیدنا علی رض نے عرض
کیا: میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے دوبارہ پوچھا، تو سیدنا علی رض پھر عرض کیا:
کیوں نہیں! کیوں نہیں۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو روایت عبد العزیز بن ماجشون نے محمد بن منکدر عن سعید بن
مسیب عن ابراہیم بن سعد کی سند سے بیان کی ہے، میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس روایت پر ابراہیم بن سعد
کی متابعت کی ہو، اس نے یہ روایت اپنے باپ سے بیان کی ہے۔

تحقیق:

[اسنادہ ضعیف]

علی بن زید بن جدعان راوی جمہور محدثین کے نزدیک "ضعیف" ہے۔

تخریج:

الطبقات لابن سعد: 24/3؛ مند الامام احمد: 173، 175، 179؛ مند

الجمیدی: 71

52۔ اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عُنْدَرْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟»

52۔ سیدنا سعد بن ابی وقاریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا علیؑ کو فرمایا: کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 3706؛ صحیح مسلم: 32/2404

53۔ اخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْيَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رَكَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ حِينَ خَلَفَهُ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ عَلَى أَهْلِهِ: «أَلَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي بَعْدِي؟»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَعْيَدِ بْنِ الْمَسِيقِ

53۔ سیدنا سعد بن ابی وقاریؓ سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے سیدنا علیؑ کو اپنے اہل و عیال کے لئے پیچھے چھوڑا تو اس وقت آپ ﷺ ان کو فرمार ہے تھے: کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس حدیث کو عامر بن سعد نے سعید بن مسیب کے علاوہ اپنے باپ سے بھی بیان کیا ہے۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

السیرۃ ابن اسحاق: 520/2 - سیرۃ ابن ہشام

54 - اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مِسْمَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ مُعاوِيَةَ لِسَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْبَبَ، عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؟» قَالَ: لَا أَسْبُبُهُ مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثَةَ قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّ تَكُونَ لِي قَالَ: «وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعْمَ. لَا أَسْبُبُهُ مَا ذَكَرْتُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَأَخَذَ عَلَيَا، وَابْنَيْهِ، وَفَاطِمَةَ، فَأَذْخَلْتُمُهُ تَحْتَ تُوبَةِ» ثُمَّ قَالَ: «رَبِّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي وَأَهْلِ بَيْتِي» وَلَا أَسْبُبُهُ حِينَ خَلَفَهُ فِي غَزْوَةِ غَزَّا هَا قَالَ: «خَلَفْتَنِي مَعَ الصِّبَّيْنَ وَالنِّسَاءِ؟» قَالَ: «أَوْ لَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمُنْزَلَةِ هَازُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا تُبُوءَ» وَلَا أَسْبُبُهُ مَا ذَكَرْتُ يَوْمَ خَيْرِ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا غُطْيَنَ هَذِهِ الرَّأْيَةِ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِيهِ» فَتَطَوَّلَنَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلَيْيِ؟» فَقَالُوا: هُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ: «اذْعُوهُ، فَدَعْوَهُ، فَبَصَّقَ فِي عَيْنِيْهِ ثُمَّ أَغْطَاهُ الرَّأْيَةَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا ذَكَرَهُ مُعاوِيَةُ بِحَزْفٍ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ»

55 - عامر بن سعد بن ابی وقاص رض سے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ رض نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رض سے کہا: آپ کوئی بات روکتی ہے کہ آپ علی ابی طالب کی تنقیص نہیں کرتے؟ سیدنا سعد رض نے کہا: جب تک مجھے وہ تمیں با تین یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمائی ہیں، میں ہرگز ان کی تنقیص نہیں کروں گا۔ ان میں سے ایک فضیلت کا بھی مجھے مل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا، جب تک وہ بات مجھے یاد

ہے کہ جب نبی کریم ﷺ پر وحی کا نزول ہوا، پھر آپ ﷺ نے سیدنا علیؑ، ان کے دونوں صاحبزادوں اور سیدہ فاطمہؓ کو اپنی چادر مبارک میں لے کر یہ دعا فرمائی: اے اللہ! یہ میرے گھر والے اور میرے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا، جب تک وہ بات مجھے یاد ہے کہ جب سیدنا علیؑ کو کسی غزوہ میں رسول اللہ ﷺ نے پیچھے چھوڑ دیا تھا تو سیدنا علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ ﷺ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرمایا: کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موی (علیہما السلام) کو ہارون (علیہما السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اسی طرح میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا، جب تک وہ بات مجھے یاد ہے کہ آپ ﷺ نے خیر کے دن (ان کے بارے میں) فرمایا: کل میں جہنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر [لشکر اسلام کو] فتح عطا فرمائیں گے، ہم میں سے ہر ایک نے جہنڈے کے ملنے کی امید رکھی مگر آپ ﷺ نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا: وہ اس وقت آشوب چشم میں بتلا ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کو میرے پاس بلاؤ، انہیں لا یا گیا۔ آپ ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور جہنڈا ان کو عطا فرمادیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر [لشکر اسلام کو] فتح عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں: اللہ کی قسم! اس کے بعد سیدنا معاویہؓ نے (سیدنا علیؑ کی تنقیص میں) ایک حرف بھی نہ بولا یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ سے پلے گئے۔

تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 2404

55- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاً بْنُ يَخْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُضْعِفٍ، عَنِ الدَّرْأَوْذِيِّ، عَنِ الْجُعَيْنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ عَلِيًّا "خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَذَاعِ يُرِيدُ غَرْوَةَ تَبُوكَ، وَعَلَيْهِ يَشْتَكِي وَهُوَ يَقُولُ: «أَتُخَلِّفُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمِنْزِلَةِ

هارون مِنْ مُوسَى إِلَّا التُّبُوّة؟»

۵۵۔ سیدنا ابو بکر صدیق رض سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ توبہ کا ارادہ فرمایا۔ سیدنا علی رض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک ”منیۃ الوداع“ کے مقام پر آگئے۔ سیدنا علی رض نے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ مجھے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رض کو فرمایا: کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

تحقیق

[اسناد صحیح]

તخریج:

مند الامام احمد: 170/1

۵۶۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّاَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُضْعِفِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبَّيْنِ؟ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَثْلِهِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَرِيَ بَعْدِي؟»

قالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالِفَهُ لَيْثٌ، فَقَالَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ

۵۶۔ سیدنا سعد بن ابی وقادس رض سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رض کو غزوہ توبہ کے موقع پر پیچھے چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رض نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا: کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ

تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لیث نے اس سند میں مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سند یوں ہے: عن الحکم، عن عائشة بنت سعد۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 4416؛ صحیح مسلم: 31/2404

57- أَخْبَرَنَا الْحَسْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُطَلِّبُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلَيِّ فِي غَزَوةِ تَبُوكٍ: «أَنْتَ مِنْ مَكَانٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَيِّئَ بَعْدِي»

قال أبو عبد الرحمن: وشعبه أحفظ، وليث ضعيف، والحديث قد روى
عائشة

75- سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی کریم رضی اللہ عنہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا: تیری میرے زدیک وہی قدر و منزلت ہے جو ہارون (علیہ السلام) کی موسیٰ (علیہ السلام) کے زدیک تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شعبہ زیادہ حافظ الحدیث ہیں اور لیث ضعیف ہیں، اس نے یہ روایت عائشہ بنت سعد رضی اللہ عنہما سے بیان کی ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

لیث بن ابی سلیم راوی جمہور محدثین کے زدیک "ضعیف" اور "مسی الحفظ" ہے اور حکم بن عتبیہ کی تدلیس بھی ہے۔

58۔ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعِبٍ، عَنِ الدَّرَازِ وَزَدِيٍّ، عَنْ الْجُعَيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ نَبِيَّ الْوَدَاعِ يُرِيدُ غَزْوَةَ تَبُوكَ وَعَلَيْهِ يَسْتَكِي وَهُوَ يَقُولُ: أَتُخَلِّفُنِي مَعَ الْخَوَافِلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا التُّبُوَّةَ؟»

58۔ سیدہ عائشہ ڦانٺنا پنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا۔ سیدنا علی ڦانٺھا آپ ﷺ کے ساتھ نکلے یہاں تک ”نبی الوداع“ کے مقام پر آگئے۔ سیدنا علی ڦانٺھا نے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ مجھے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ کر جاہے ہیں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

تحقیق

[اسناد صحیح]

تخریج:

منہ الامام احمد: 170/1؛ النَّبِيُّ لَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ: 1340:

59۔ أَخْبَرَنَا الْقَضْلَى بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزِّيْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْهُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَخَلَفَ عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ أَتُخَلِّفُنِي؟ فَقَالَ لَهُ: «أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟»

59۔ سیدنا سعد بن ابی وقاریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا علی ڦانٺھا کو غزوہ تبوک

کے موقع پر چھپے چھوڑ دیا تو سیدنا علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ ﷺ نے مجھے (عورتوں اور بچوں کے ساتھ) چھپے چھوڑ دیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرمایا: کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موئی (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف والحدیث صحیح]

حزہ بن عبد اللہ کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے "مجھول" کا حکم لگایا ہے۔
(تقریب التہذیب: 1525)

اس کے باپ عبد اللہ کو حافظ ذہبی (میزان الاعتدال: 2/529) نے "لا یعرف" اور حافظ ابن حجر (تقریب التہذیب: 3728) نے "مجھول" قرار دیا ہے۔

તخریج:

مند الامام احمد: 1/184؛ السنۃ لابن ابی عاصم: 1334

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اس حدیث کو بیان کرنے میں عبداللہ بن شریک کا (لفظی) اختلاف

۶۰۔ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاً بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو نُعَيْنٍ قَالَ: حَدَّنَا فِطْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَقِيمِ الْكِنَانِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» قَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدٍ

۶۰۔ سیدنا سعد بن ابی وقار نے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا علیؑ کو فرمایا: تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اس روایت کی سند یوں ہے: عن عبد الله بن شریک، عن الحارث بن مالک، عن سعد۔

تحقیق

[اسناده ضعیف و امتن صحیح]

عبدالله بن رقیم کنانی راوی محبول ہے۔ کامر

تخریج:

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: 3/247

61- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا عَلَى نَاقَتِهِ الْحَمْرَاءَ وَخَلَفَ عَلَيْهَا، فَجَاءَ عَلِيُّ حَتَّى أَخَذَ بِغَزْرِ النَّاقَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمْتُ قُرْيَشَ أَنَّكَ إِنَّمَا خَلَفْتَنِي أَنَّكَ اسْتَثْقَلْتَنِي، وَكَرِهْتَ صُحْبَتِي وَبَنِي عَلِيٍّ، فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ حَامَةٌ؟ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا تَبَيِّنُ بَعْدِي؟» قَالَ عَلِيٌّ: «رَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَعَنِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

۶۱۔ سیدنا سعد بن مالک ڈین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کی غرض سے اپنی ”حرماء“ نامی اونٹ پر سوار ہوئے۔ سیدنا علی ڈین کو (مدینہ منورہ میں بطور نائب) پیچھے چھوڑ دیا۔ سیدنا علی ڈین نے رسول اللہ ﷺ کی اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! قریش یہ گمان کرتے ہیں کہ مجھے صرف اس لیے پیچھے چھوڑا ہے کہ آپ ﷺ نے مجھے اپنی ذات پر بوجھ سمجھا ہے اور میری صحبت کو ناپسند فرمایا ہے (اس کے ساتھ ہی) سیدنا علی ڈین روپڑے تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں میں اعلان فرمایا: کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے کوئی قربی شخص نہیں ہے؟ پھر فرمایا: اے ابن ابی طالب! کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میری تیرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو سیدنا علی ڈین نے عرض کیا: میں اللہ عز وجل اور اس کے رسول (علیہ السلام) سے راضی ہوں۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

حارث بن مالک راوی مجہول ہے، اس کے بارے میں خود امام صاحب فرماتے ہیں:

”لا اعرفه“

”میں اس کو نہیں پہچانتا۔“

باقي عبد اللہ بن شریک عامری راوی ”حسن الحدیث“ ہے۔

- 62- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْيَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُمَهُرِيُّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ عَلَيْيَ فَقَالَ لَهَا: «رَفِيقِي هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ عَنْ وَالِدِكَ مُثْبِتٌ؟» قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنُتُ عُمَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلَيْيَ: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي بَعْدِي؟» موسی الجمهوريؑ سے روایت ہے کہ میں سیدہ فاطمہ بنت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ایک ساتھی نے ان سے عرض کیا: کیا آپ کے پاس (یعنی آپ کے علم میں) آپ کے والد (سیدنا علیؑ) کے (مناقب کے) بارے میں کوئی حدیث موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا: مجھے سیدہ اسماء بنت عمیںؑ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علیؑ کو فرمایا: میری تیرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسی (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

تحقیق

[اسناد صحیح]

તخریج:

مصنف ابن أبي شيبة: 12/60؛ مندالامام احمد: 438/6؛ السنۃ لابن عاصم: 1346

- 63- أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ، عَنْ مُوسَى الْجُمَهُرِيِّ قَالَ: أَذْرَكْتُ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عَلَيْيَ، وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَائِينَ سَنَةً فَقُلْتُ: لَهَا أَتَحْفَظُ لَهُ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِي أَخْبَرْتُنِي أَسْمَاءُ بْنُتُ عُمَيْنٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا عَلَيْيَ «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ»

- 64- موسی الجهمیؑ سے روایت ہے کہ میں سیدہ فاطمہ بنت علیؑ کو ملا اس وقت ان کی عمر

اُسی [۸۰] سال تھی، میں نے عرض کیا: کیا آپ نے اپنے والدگرامی کے (مناقب کے) بارے میں کوئی حدیث یاد کی ہے تو انہوں نے فرمایا: نہیں مگر مجھے سیدہ اسماء بنت عمیس رض نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ ﷺ فرمारہے تھے: اے علی! میری تیرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

تحقیق:

[اسناد صحیح]

તخریج:

تاریخ بغداد للخطیب: 43/10

- 64 - أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوَّدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى الْجُنْبَنِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بْنِتِ عَلَيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِتِ عُمَيْنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مَنِيَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَغْدَيِي تَبَّيِّ»

- ۶۳ - سیدہ اسماء بنت عمیس رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علی رض کو فرمایا: میری تیرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

تحقیق

[اسناد صحیح]

تخریج:

زادہ فضائل الصحابة للقطبی: 1091

ذِكْرُ الْأُخْوَةِ

اخوت کا بیان

65۔ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّسَابُورِيُّ، وَأَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، - وَاللَّفْظُ لِحَمْدٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ سَمَاكٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ وَاللَّهُ لَا تَنْقَلِبْ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، وَاللَّهُ لَئِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَا قَاتِلَ عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَاللَّهُ إِنِّي لِأَخْوَهُ، وَوَارِثُهُ، وَابْنُ عَمِّهِ، وَمَنْ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي؟»

۶۵۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رض سے روایت ہے کہ سیدنا علی رض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: «إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ [آل عمران: ۱۳۲]» ترجمہ: ”اگر آپ وفات پا جائیں، یا شہید کر دیے جائیں کیا یہ لوگ ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے، البتہ جو پھر گیا۔۔۔“ اللہ کی قسم! [جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں] ہم کبھی بھی ایڑیوں کے بل نہیں پھریں گے، اس چیز کے بعد کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے تو میں ضرور اس چیز کے

لئے لڑوں گا جس چیز کیلئے رسول اللہ ﷺ آخوند دم تک لڑتے رہے۔ اللہ کی قسم! میں تو نبی کریم ﷺ کا بھائی ہوں، دوست ہوں، آپ ﷺ کا وارث ہوں اور بچا زاد بھائی ہوں۔ پس مجھ سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟۔

تحقیق

[اسنادہ ضعیف و منکر]

سماک بن حرب محدثین کے نزدیک ”حسن الحدیث“ ہے۔ لیکن عکرمہ سے اس کی روایت مضطرب ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”صدوق و روایته عن عکرمہ خاصۃ مضطربۃ وقد تغیر باخرہ

فكان ریما يلقن“

”یہ سچا راوی ہے البتہ خاص طور پر عکرمہ سے اس کی روایت مضطرب ہوتی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں اس کے حافظے میں تغیر آ گیا تھا، اس نے تلتین قبول کرنا شروع کر دی تھی۔“

(تقریب التہذیب: 2624)

اس لیے حافظہ ہبی ہے اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”هذا حدیث منکر“

”یہ حدیث منکر ہے۔“

(میزان الاعتدال: 3/255، ت: 6353)

لہذا حافظہ ہبی ہے (مجموع الزوائد: 9/134) کا اس روایت کو ”رجالہ رجال الصَّحِّ“ کہنا کچھ مفید

نہیں۔

تخریج:

المجمِعُ الْكَبِيرُ لِلطَّبرَانِيٍّ: ١ / ٤٦؛ زوائد فضائل الصحابة للقطبي: ١١١٠؛ المسدرک للحاکم: ١٢٦/٣.

66- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ، عَنْ أُبَيِّ صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيٍّ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ وَرِثْتَ ابْنَ عَمِّكَ دُونَ عَمِّكَ؟» قَالَ: جَمِيعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ: - دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَصَبَّعَ لَهُمْ مُدَّاً مِنْ طَعَامٍ قَالَ: «فَأَكَلُوا حَتَّى شَبَّغُوا وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ كَانَهُ لَمْ يُمْسِّ، ثُمَّ دَعَا بِغُمْرٍ فَشَرِّبُوا حَتَّى رَوَفَا وَبَقِيَ الشَّرَابُ كَانَهُ لَمْ يُمْسِّ أَوْ لَمْ يُشَرِّبْ» فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «إِنِّي بَعْثَتُ إِلَيْكُمْ بِخَاصَّةٍ، وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَيْةِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَإِنَّكُمْ يُتَابِعُونِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي، وَصَاحِبِي، وَوَارِثِي؟» فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَقَمَتْ إِلَيْهِ، وَكُنْتُ أَصْنَعُرَ الْقَوْمَ فَقَالَ: «اَجْلِسْ» ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَقْوَمُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: «اَجْلِسْ» حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي ثُمَّ قَالَ: «فِيَدِكَ وَرِثْتَ ابْنَ عَيْنِي دُونَ عَيْنِي

۶۶- رَبِيعَةَ بْنَ نَاجِدَ سَرِيَّةَ روایت ہے کہ ایک آدمی نے سیدنا علیؑ سے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! آپ اپنے چھاؤں کی بجائے اپنے چپاڑا [نبی کریم ﷺ] کے وارث کیسے بنے؟ آپؑ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا [یا راوی نے یہ الفاظ بیان کیے کہ] بنو عبد المطلب کو بلا یا، پس ان سب کے لیے آپؑ نے ایک مدعا مکا کھانا تیار کیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا مگر کھانا بھی تک اتنا ہی موجود تھا، جتنا کہ پکایا گیا تھا جیسا کہ اس کو کسی نے چھو تو پہرا آپؑ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، سب نے سیر ہو کر پیا تو پانی بھی اسی طرح نیچ گیا جیسا کہ اس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی نے پیا تو نہیں۔ پھر آپؑ نے ارشاد فرمایا: اے بنی عبد المطلب، میں خاص طور پر تمہاری طرف

اور عام طور پر باقی لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، البتہ تم نے جو میرے [کھانے اور پانی کے متعلق اس] مجزے کے کو دیکھنا تھا وہ تم دیکھے چکے ہو پھر پوچھا: تم میں سے کون اس بات پر میری بیعت کرنا چاہتا ہے کہ جو میرا بھائی، میرا دوست اور میرا وارث ہو۔ خاندان کے لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کے لئے کھڑا نہ ہوا تو میں [سیدنا علیؑ] نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں [یہ کروں گا]۔ حالانکہ میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: علیؑ بیٹھ جاؤ، آپ ﷺ نے تین مرتبہ یہ کلمات دہرانے، میں ہر بار آپ ﷺ کی دعوت پر کھڑا ہوتا رہا اس پر آپ ﷺ مجھے فرماتے رہے کہ بیٹھ جاؤ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو نبی کریم ﷺ نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھر فرمایا: [تو میرا بھائی ہے، میرا دوست اور میرا وارث ہے] [سیدنا علیؑ فرماتے ہیں: یوں میں اپنے چچا (سیدنا عباسؑ) کے علاوہ اپنے چچازاد (یعنی نبی کریم ﷺ) کا وارث بننا۔

تحقیق و تخریج:

[منکر]

حافظ ذہبی نے اسے منکر کہا ہے۔ [میزان الاعتدال: 235/2]

امام علی بن مدینیؓ شاید اسی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

قد روی عثمان بن المغيرة احادیث منکرة من حديث ابی عوانة.

”بلاشبہ عثمان بن مغیرہ نے امام ابو عوانہؓ سے منکر احادیث بیان کی ہیں۔“

[الضعفاء الكبير للعقلي: 107/1؛ وسندہ صحیح]

چونکہ اس روایت کو امام ابو عوانہؓ نے اپنے حافظے سے بیان کرتے ہوئے خطأ کھائی، اس پر دلیل

یہ ہے، *المنتخب من العلل للخلال لابن قدامة المقدسي* [119] میں ہے:

قللت لأبي عبد الله: حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذٍ. رواه

أبو عوانة - يعني: عن عثمان ابن المغيرة، عن أبي الصادق، عن

ربیعہ بن ناجد، عن علیٰ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: بِمَا وَرَثَتِ ابْنُ عَمِّكَ؟.

قال أبو عبد الله: وهذا مما أخطأ فيه. وقال لنا موسى بن إسماعيل هكذا حدثنا به أبو عوانة من حفظه، وأخطأ فيه، وحدثنا به من كتابه. عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ميسرة الكندي، عن علیٰ.

”میں نے ابو عبد اللہؐ سے کہا: حدیث ابو صادق عن ربیعہ بن ناجد عن علیؑ کی سند سے بیان عوانہؐ نے عثمان بن مغیرہ عن ابی صادق عن ربیعہ بن ناجد عن علیؑ کی سند سے بیان کیا ہے، کہ سیدنا علیؑ سے پوچھا گیا: آپ اپنے چپازاد کے وراث کیسے بنے؟“
 امام ابو عبد اللہؐ نے کہا: یہ ان کی غلطیوں میں سے ہے۔ موسی بن اسماعیل نے ہمیں اسی طرح کہا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو عوانہؐ نے اپنے حافظے سے بیان کیا ہے، اس میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ ہم نے ان کی یہ حدیث اپنی کتاب سے عن عثمان بن مغیرہ عن سالم بن ابی الجعد عن میسرۃ الکندي عن علیؑ کی سند سے بیان کی ہے۔“

اس کا راوی ربیعہ بن ناجد ”ثقة“ ہے۔ اسے امام عجلیؐ (الشفات: 159) اور امام ابن حبانؐ (الشفات: 4/229) نے ”ثقة“ کہا ہے۔ امام حاکمؐ (المستدرک: 3/132) نے اس کی ایک روایت کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔ یہ ضمی توثیق ہے، حافظ ابن حجرؐ نے بھی اسے ”ثقة“ کہا ہے۔
 (تقریب العہذیب: 1918)

منہد امام احمد (111/1) کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے:
 ایکم یقضی دینی ویکون خلیفتی فی اہلی۔

”جو بھی میرے قرض کو ادا کرے گا، وہی میرے اہل بیت میں سے میرا خلیفہ ہو گا۔“

تبصرہ:

اس کی سند ”ضعیف“ ہے اس میں شریک بن عبد اللہ قاضی اور اعمش دونوں مدرس ہیں جو کہ لفظ ”عن“ سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔ اس کا روایی عباد بن عبد اللہ الاسدی الکوفی ”موثق“ اور ”حسن الحدیث“ ہے۔ امام طبرانی رض فرماتے ہیں:

”لم يرو هذا الحديث عن الاعمش الا شريك وابو عوانة۔“

”اس حدیث کو امام اعمش سے صرف شریک اور امام ابو عوانہ نے بیان کیا ہے۔“

(المجمع الاوسط للطبراني: 1971)

لیکن یہ سننہیں مل سکی۔

67۔ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْرِي قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوِلٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُنْبَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَقُولُهَا إِلَّا كَذَابٌ مُفْتَرٌ «فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَخَنَقَ فَحَمَلَ

67۔ ابو سليمان الجبني سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدنا علی المتفق رض بر سر منبر فرم رہے تھے: میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ میرے بعد اب کوئی کذاب، مفتری (بہتان لگانے والا) ہی (اپنے بارے میں) یہ کہے گا۔ ایک آدمی نے کہا: میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں تو وہ حق (۱) (بیماری) کا شکار ہو گیا اور اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ (۱) ”خنق“ وہ بیماری ہے جس میں انسان کا سانس بند ہونے لگتا ہے جس طرح کہ مرض دمہ ہمارے ہاں ایک معروف بیماری ہے۔

تحقیق:

[مکر]

یہ منکر قول ہے۔ راوی حارث بن حصیرہ ابو نعمان کوفی بے شک ”ثقة“ ہے لیکن اس کے بارے میں حافظ عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وله غير حديث منكر في الفضائل مما شجر بينهم وكان من يغلو في هذا الامر۔

”سیدنا علی رض کے فضائل میں اس نے اس کے علاوہ بھی منکر روایتیں بیان کی ہیں، جن کا تعلق مشاجرات سے ہے، یہ اس معاملے میں غلوکاشکار ہے۔“

(الضعفاء الكبير: 1/216)

یہ منکر قول صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے۔

تخت رنج:

مصنف ابن ابی شہبیة: 12/62؛ الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی: 2/187؛ تاریخ دمشق لابن عساکر: 42/61

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْيِ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں،“

68۔ أَخْبَرَنَا يَثْرَبُ بْنُ هَلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَلَيَّ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ»

۶۸۔ سیدنا عمران بن حصین رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبھ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور یہ ہر مومن کا دوست ہے۔

تحقیق

[اسنادہ حسن]

جعفر بن سلیمان راوی جمہور محدثین کے نزدیک حسن المحدث ہے۔

تخریج:

السنة لابن أبي عاصم: 1187

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى اُبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اس حدیث کو بیان کرنے میں ابو اسحاق کا (لفظی) اختلاف

69۔ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبَشَيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلْوَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَلَيْيِ مِيَّ، وَأَنَا مِنْهُ» فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: «أَيْنَ سَمِعْتَهُ؟» قَالَ: وَقَفَ عَلَيْيِ هَاهُنَا فَحَدَّثَنِي رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ فَقَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ

۶۹۔ حبشي بن جنادة السلولي سے روایت ہے کہ میں نے نار رسول اللہ ﷺ فرمایا تھا: علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔

حدیث کی سند کے ایک راوی شریک کہتے ہیں: میں نے ابو اسحاق سے پوچھا: آپ نے یہ روایت کہاں سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا: حبشي بن جنادة السلولي نے مجھے یہاں کھڑے ہو کر یہ حدیث بیان کی تھی۔

نوت: اور حدیث میں ”وقف علی“ مذکور ہے، لیکن صحیح ”وقف علينا“ ہے، جو کہ مندالامام احمد میں ہے۔

تحقیق

[اسناده ضعیف]

ابوسحاق سعینی راوی ”مشتط“ ہے۔

تخریج:

مند الامام احمد: 4/156؛ سنن الترمذی: 3719 و قال: «هذا حديث حسن غريب صحح»؛ سنن

ابن ماجہ: 119

70۔ أخبرنا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ» وَرَوَاهُ الْفَاسِدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَمِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ وَهَانِي عَنْ عَلِيٍّ

70۔ سیدنا براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علیؑ کو فرمایا: تم مجھ سے ہوا درمیں تم سے ہو۔

امام نسائیؓ فرماتے ہیں: اس روایت کو قاسم بن یزید جرجی نے اس سند سے نقل کیا ہے: عن اسرائیل، عن ابی اسحاق، عن هبیرۃ وہانی، عن علیؑ۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 4251

71۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَزْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، وَهَانِي بْنِ هَانِي، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا صَدَرَنَا مِنْ مَكَّةَ إِذَا ابْنَهُ حَفْرَةً ثَنَادِيَ يَا عَمُ، يَا عَمُ، فَتَنَوَّهَ بِهَا عَلَيْهِ فَأَخَذَهَا فَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونِكَ ابْنَهُ عَمِّكِ، فَحَمَلَهَا فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلَيْهِ، وَجَعْفَرٌ، وَزِيدٌ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَهُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ: «ابْنَهُ عَمِّي وَخَالُهُ تَحْتِي» وَقَالَ زِيدٌ: «بِنْتُ أَخِي» فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالِتِهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشَهِدُكَ خَلْقِي وَخُلُقِي» وَقَالَ لِزِيدٍ: يَا زِيدُ «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا»

۱۷۔ ہانی بن ہانی سیدنا علیؑ سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم (فتح مکہ کے موقع پر) مکہ مکرمہ سے واپس پہنچنے تو سیدنا حمزہؑ کی صاحبزادی نے آواز دی! اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ سیدنا علیؑ اس کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ اس کو اٹھا لیا۔ پھر (ابنی زوجہ محترمہ) سیدہ فاطمۃ الزہراءؓ سے فرمایا: اپنے چچا کی بیٹی کو سنجا لو، انہوں (سیدہ فاطمہؓ) نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر اس (کی کفالت) کے بارے میں سیدنا علیؑ، سیدنا جعفر اور سیدنا زیدؑ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سیدنا علیؑ المرضیؑ نے فرمایا: میں اس (کی کفالت) کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی صاحبزادی ہے، سیدنا جعفرؑ نے فرمایا: (میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ) یہ میرے چچا کی صاحبزادی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ سیدنا زیدؑ نے کہا: یہ میرے بھائی (اخوت کا تعلق) کی صاحبزادی ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس (کی کفالت) کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں فرمادیا اور فرمایا: خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے۔ اور سیدنا علیؑ کو فرمایا: تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سیدنا جعفرؑ کو فرمایا: تو سب سے زیادہ سیرت اور صورت کے لحاظ سے متشابہ ہے اور سیدنا زیدؑ کو فرمایا: تو ہمارا بھائی اور قریبی دوست ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابوسحاق سعیعی راوی "مس" ہے۔

تخریج:

مند الامام احمد: 1/115, 98؛ سنن ابی داؤد: 2280؛ مشکل الآثار للطحاوی: 4/183؛
المستدرک للحاکم: 3/120؛ و قال: صحیح الاسناد و وافقه الذہبی، و صحیح ابن حبان [7046]

ذِكْرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ كَنْفِسِي»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”علی میرے نفس کی طرح ہے“

72۔ أَخْبَرَنَا الْعَبَاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَخْوَصُ بْنُ جَوَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يَتَّبِعٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَتَّبِعَنَّ بَنُو وَلِيْعَةً أَوْ لَأَبْعَنَّ إِنْهِمْ رَجُلًا كَنْفِسِيٌّ يُنْفَدِّ فِيهِمْ أَمْرِي، فَيَقْتُلُنَّ الْمُقَاتِلَةَ، وَيَسْبِي الْذُرَيْةَ» فَمَا زَاعَنِي إِلَّا وَكَفُّ عُمَرَ فِي حُجَّزَنِي مِنْ خَلْفِي مَنْ يَعْنِي؟ فَقُلْتُ: مَا إِيَّاكَ يَعْنِي، وَلَا صَاحِبَكَ قَالَ: «فَمَنْ يَعْنِي؟» قَالَ: «خَاصِفُ النَّعْلِ» قَالَ: «وَعَلِيٌّ يَخْصِفُ نَعْلًا»

72۔ سیدنا ابوذر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نو ولیعہ اگر باز نہیں آئے تو میں ضرور ان کی طرف ایسا شخص بھیج دوں گا جو مجھے اپنے نفس جیسا ہے جو میرا حکم ان پر نافذ کرے گا۔ یعنی لڑنے والوں کو قتل کرے گا اور بچوں کو تیڈی بنائے گا۔ راوی حدیث سیدنا ابوذر ؓ نے فرماتے ہیں: پس میں نے ابھی کوئی حرکت نہیں کی تھی، سیدنا عمر فاروق ؓ نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر فرمایا: اس سے کون مراد ہے؟ میں نے کہا: نہ آپ ؓ اس سے مراد ہیں اور نہ ہی آپ ؓ کے ساتھی [سیدنا ابوکبر صدیق ؓ]۔ انہوں نے فرمایا: تو پھر کون مراد ہے؟ میں نے کہا: اس سے مراد نبی کریم ﷺ کے نعلین مبارک گا نہیں

والے ہیں۔ سیدنا ابوذر ؓ نے مزید فرمایا: سیدنا علیؑ آپ ﷺ کے تعلیم مبارک گانھا کرتے تھے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

ابو اسحاق ”ملس“ ہیں جو کہ لفظ ”عن“ سے بیان کر رہے ہیں، سامع کی تصریح نہیں مل سکی۔ فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل (966) میں یہ روایت مرسل بیان ہوئی ہے۔ نیز اس میں ابو اسحاق کی تدلیس بھی ہے۔

یہ روایت مندادی یعلی (859)، المستدرک للحاکم (120/2) و قال ”صحیح الاسناد“، تاریخ دمشق لا بن عساکر: (342/42) میں طلحہ بن جرمن المطلب بن عبد اللہ عن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف کی سند سے آتی ہے۔ لیکن یہ سند بھی ”ضعیف“ ہے۔ طلحہ بن جر کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”لیس بعمدة“، ”یہ اچھا راوی نہیں ہے۔“ (تلخیص المستدرک: 120/2) یہ ”ضعیف“ راوی ہے۔ نیز اس میں المطلب بن عبد اللہ راوی ملس ہے۔ بصیرۃ ”عن“ سے روایت کر رہے ہیں، سامع کی تصریح نہیں مل سکی۔ فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل (1008) میں المطلب بن عبد اللہ بن حنطب نے اسے مرسل بیان کیا ہے اور مرسل روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔

اسی طرح یہ روایت مصنف ابن ابی شہیۃ (12/68) میں بھی آتی ہے۔ عبد اللہ بن شداد اسے مرسل بیان کرتے ہیں اور شریک بن عبد اللہ ملس ہیں۔

اس کی ایک سند مجمجم الاوسط للطبرانی (3797) میں آتی ہے۔ وہ بھی ”ضعیف“ ہے۔ اس سند میں وجہ ضعف دو ہیں۔ اولاً: راوی عبد اللہ بن عبد القدوں سعدی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ ثانیاً: اعش ملس ہیں جو کہ لفظ ”عن“ سے بیان کر رہے ہیں، سامع کی تصریح نہیں مل سکی۔

اس کی ایک سند مناقب علی بن ابی طالب لابن المغازی (105) میں بھی آتی ہے۔ وہ بھی ابو اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیز اس سند میں ابن عقدہ متوفی راضی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب کی واضح توثیق بھی ثابت نہیں ہے۔

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ صَفَّيٌّ وَأَمِينٌ»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”عَلَى مِيرَاصِي أَوْرَامِينَ هُنَّ“

73۔ اخْبَرَنِي زَكَرِيَاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو مَرْوَانَ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلَيُّ فَصَافِيٌّ وَأَمِينٌ» ۚ ۷۴۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے علی تم میرے صافی (ملحق دوست) اور امین (امانت دار) ہو۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

راوی نافع بن عیمر مجہول الحال ہے، امام ابن حبان [الشقات: 3/143] نے اسے صحابی قرار دیا ہے۔ نیز اسی کتاب [الشقات: 5/469] میں اسے ثقہ قرار دیا ہے، امام بخاری اور امام ابو حاتم رازی کے نزدیک یہ تابعی ہے، بعد والوں کا اسے صحابی کہنا صحیح نہیں۔

محمد بن نافع بن عیمر راوی کو امام محمد بن اسحاق بن یسار (التاریخ الکبیر للبخاری: 1/249) اور امام ابن حبان (الشقات: 7/431) نے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

تخریج:

تاریخ الکبیر للبخاری: 1/250؛ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 1330؛ مشکل الآثار للطحاوی: 3083؛ سنن ابی داؤد: 2278 مختصرًا؛ استدرک للحاکم: 3/211 مختصرًا؛ منذ البر: 891

ذکر قول النبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: «لَا یُؤَدِّی عَنِی إِلَّا أَنَا أَوْ عَلَیْیٌ»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”میرے اور علی کے علاوہ میری ذمہ داری کوئی نہیں ادا کرے گا“

74۔ اخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبَشَيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلْوَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَیٌّ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَلَا یُؤَدِّی عَنِی إِلَّا أَنَا أَوْ عَلَیْیٌ»

75۔ این جنادہ السلولی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں: میری ذمہ داری میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں ادا کرے گا۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابو اسحاق اسپیعی راوی ”مختلط“ ہے۔ ^لمعجم الکبیر للطبرانی (4/19) میں یہ الفاظ ہیں: ”ولا یؤدی عنی الا أنا أو على“ یہ سند سخت ضعیف ہے۔ قیس بن ربع اور یحیی بن عبد الحمید حماں دونوں اکثر محدثین کے نزیک ضعیف ہیں۔

تخریج:

مند الامام احمد: 4/165؛ سنن الترمذی: 3719؛ سنن ابن ماجہ: 119

ذکر توجیہ النبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلیٰ

نبی کریم ﷺ کا سیدنا علیؑ کو سورۃ توبہ کے

احکام دے کر بھیجنے کی توجیہ کا بیان

75۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَزِيبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ مَعَ أُبَيِّ بَكْرٍ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: «لَا يَتَبَغِي أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي» فَدَعَاهُ عَلَيْهِ، فَأَغْطَاهُ إِيَّاهُ

76۔ سیدنا انس بن مالک ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورۃ براءۃ [توبہ] کے اعلان کے ساتھ سیدنا ابو بکر ؓ کو [مکہ] بھیجا پھر انہیں واپس بلا یا اور فرمایا: کسی کے لئے مناسب نہیں کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی اور اس سورۃ کو پہنچائے تو آپ ﷺ نے سیدنا علیؑ کو بلا یا اور ان کو وہ سورۃ عطا فرمادی۔

تحقیق و تخریج:

[مکر]

علامہ جو رقانی نے اسے مکر قرار دیا ہے۔ [الاباطیل والمناکیر والصحاب والمشاہیر: 128]
مصنف ابن ابی شہیۃ: 12/84, 85؛ مند الامام احمد: 3/212, 283؛ سنن الترمذی: 3090 و قال: "حسن غریب"؛ زوائد فضائل الصحابة للقطبی: 946، 1090

76۔ أَخْبَرَنَا الْعَبَّامُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَزْوَانَ، فَرَأَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُتْبَعِ، عَنْ عَلَيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَعَثَ بِرَبَّاءَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ أَتَبَعَهُ بِعَلَيِّ فَقَالَ لَهُ: «خُذِ الْكِتَابَ، فَامْضِ بِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ»" قَالَ: «فَلَحِقْتُهُ، فَأَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ، فَانْصَرَفَ أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ كَنِيبٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْذِلْ فِي سَيِّءٍ؟ قَالَ: «لَا، إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أُبَيْغِعَهُ أَنَا، أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي»

۶۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورۃ برأت [توبہ] کے احکام دے کر سیدنا ابو بکرؓ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا پھر نبی کریم ﷺ نے مجھے ان کے پیچھے روانہ کیا اور فرمایا: [مکہ کے راستے کی طرف نکلو، جہاں بھی تمہاری ملاقات ابو بکر سے ہو جائے] تو ان سے کتاب کو لے لینا اور اہل مکہ کے سامنے ان آیات کو جا کر تلاوت کرنا میں [جحفہ کے مقام پر] ان سے جاملہ اور کتاب لے لی تو سیدنا ابو بکرؓ افسرده حالت میں نبی کریم ﷺ کے پاس واپس لوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا، میرے متعلق کوئی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس ذمہ داری کو میں خود ادا کروں یا میرے اہل بیت میں سے کوئی اس کو پہنچائے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

ابو اسحاق سمیعی مدرس ہیں جو کہ لفظ ”عن“ سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔ علامہ جو رقانیؓ نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ سنن الترمذی (3092) میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ سیدنا علیؑ سے روایت ہے: ”بعثت أربيع---“ یہ روایت ابو اسحاق اور سفیان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اگرچہ امام ترمذیؓ نے اسے ”حسن صحیح“ قرار دیا ہے۔

البتہ عبداللہ بن عثمان بن خیثم راوی جمہور محدثین کے نزدیک ”حسن الحدیث“ ہے۔ سنن الترمذی (3091) اور المسند رک علی الحصححین للحاکم (52/3) میں اس کا ایک شاہد بھی ہے، اس کی سند بھی

الحکم بن عتبیہ کی تدليس کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔ اگرچہ امام ترمذی رض نے ”صحیح الاسناد“ کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

77- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَقِيمٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ بِزَرَاءَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعَضُ الظَّرِيقِ أَرْسَلَ عَلَيْهَا فَأَخَذَهَا مِنْهُ، ثُمَّ سَارَ بِهَا، فَوَجَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يُؤْدِي عَنِي إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِّنِي»

77- سیدنا سعد بن ابی وقادش رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رض کو سورہ توبہ کے احکام دے کر بھیجا، ابھی انہوں نے تھوڑا ہی راستے طے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رض کو ان کے پیچھے بھیجا۔ انہوں نے ان سے وہ احکام لے لیے پھر آگے چل پڑے تو سیدنا ابو بکر رض نے اس بات کو اپنے دل میں محسوس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری ذمہ داری میرے یا جو آدمی مجھ سے ہے، کے علاوہ کوئی ادا نہیں کرے گا۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

عبداللہ بن رقیم کندی مجبول ہے۔

78- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أُبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقَ، عَنْ ابْنِ جُرْجِيجَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ خُثْنِيمَ، عَنْ أُبِي الرِّبَّاعِ، عَنْ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَنِ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِفْرَانَةِ بَعْثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجَّ، فَأَفْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نُوَبَّ بِالصُّبْحِ، ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ، فَسَمِعَ الرَّغْوَةَ خَلْفَ ظَهِيرَةِ، فَوَقَفَ عَنِ التَّكْبِيرِ، فَقَالَ: "هَذِهِ رَغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَّ، فَلَعْلَهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْصَلِي مَعَهُ، فَإِذَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو

بَكْرٌ: أَمِيرُ أُمِّ رَسُولٍ؟ فَقَالَ: «لَا، بْنَ رَسُولٍ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ أَفْرُوْهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجَّ» فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الْتَّرْوِيَّةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلَيْهِ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَّمَهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرْفَةَ، قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلَيْهِ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ سُورَةَ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَّمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَأَفَضَّنَا، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ، وَعَنْ تَخْرِيْهِمْ، وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلَيْهِ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَّمَهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ، وَكَيْفَ يَرْمُونَ، فَعَلِمُهُمْ مَنَاسِكِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلَيْهِ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَّمَهَا

۔ ۷۸۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ "عمرہ حمراۃ" سے واپس تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ کے ساتھ چلے جب "عرج" مقام پر پہنچے تو فجر کی اذان کی گئی پھر وہ تکبیر کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے سے اونٹی کے بلبلانے کی آواز سے تو تکبیر کو روکنے کا حکم دیا، فرمایا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ کی اونٹی کے بلبلانے کی آواز ہے بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ پرج کے بارے میں کوئی نیا مسئلہ نازل ہوا ہے۔ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ ہوں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ کے پاس تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ نے ان کو فرمایا: تم امیر ہو یا قاصد؟ انہوں نے فرمایا: نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ نے مجھے سورہ براءۃ کے احکام دے کر بھیجے ہیں تاکہ حج کے مقامات پر لوگوں کے سامنے میں ان کی تلاوت کروں جب ہم مکہ المکرمة پہنچے۔ تو "یوم ترویہ" سے ایک دن پہلے سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اس میں انہوں نے مناسک حج کو بیان کیا، جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ کھڑے ہوئے اور لوگوں پر مکمل سورہ براءۃ کی تلاوت کی پھر ہم ان کے ساتھ آگے چل پڑے۔ جب "یوم عرفہ" کا دن آگیا تو سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسَعْدُہ وَسَلَّمَ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں انہوں نے مناسک حج کو بیان کیا جب وہ فارغ ہوئے تو

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں پر مکمل سورہ براءۃ کی تلاوت کی۔ پھر جب قربانی کا دن آیا، ہم وہاں سے پلٹے، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے پلٹے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں انہوں نے عرفات سے پلٹنے، قربانی اور دیگر مناسک حج کو بیان کیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے مکمل سورہ براءۃ کی تلاوت فرمائی۔ پھر جب لوٹنے کا پہلا دن آیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا: اس میں کیسے واپس پلٹنا جائے، کیسے کنکریاں ماری جائیں اور دیگر مناسک حج کی تعلیم دی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں کے سامنے مکمل سورہ براءۃ کی تلاوت فرمائی۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

ابوالزیر کی مدرس ہیں، سماع کی تصریح ثابت نہیں ہے۔ سنن الترمذی [3091] اور مسند رک حاکم [51/3] میں اس کا ایک شاہد بھی ہے، اس کی سند حکم بن عتبیہ کی تدلیس کی وجہ "ضعیف" ہے، حکم نے یہ روایت مقسم سے نہیں سنی، اگرچہ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے "حسن" اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے "صحیح الاستاذ" کہا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

فائدہ:

نبی اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پہل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دو کام سونپنے تھے۔ پہلا کام امارت حج اور دوسرا سورہ توبہ کی تبلیغ۔ آپ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم امارت حج پر بدستور قائم رہے، البتہ سورہ توبہ کی آیات کی تبلیغ خاص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگادی گئی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تبلیغ دین کی الہیت نہیں رکھتے تھے یا تبلیغ دین صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا یا نبی اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناخوش تھے۔ ایسے بالکل نہ تھا۔

صحیح البخاری (۲/۶۷، ح: ۳۶۵) میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعْثَةً فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فِي رَهْبَطٍ يُؤَذَّنُونَ فِي النَّاسِ: «أَنْ لَا يَحْجَنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْزَانٌ»

”سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حجۃ الوداع سے قبل اللہ کے رسول ﷺ نے اس حج میں بھیجا جس میں انہیں لوگوں کے ایک بڑے گروہ میں امیر مقرر کیا تھا کہ آپ ﷺ نے اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک قطعاً حج نہ کرے اور نہ کوئی نیک شخص بیت اللہ کا طواف کرے۔“

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُنْتُ وَلَيْهُ فَعَلَيْهِ وَلَيْهُ»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”جس کا میں مولیٰ (دost) اس کا علی مولیٰ (دost) ہے“

79۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الطَّفَفِينَ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَزْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ أَمَرَ بَدْوَحَاتٍ فَقُمِّمَنَ ثُمَّ قَالَ: "كَأَنِّي قَدْ دُعِيْتُ، فَأَجَبْتُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمُ التَّقْلِيْنَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ وَعِشْرَتِيْ أَهْلُ بَنِي، فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، فِيهِمَا لَنْ يُتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيْهِ الْحَوْضَ" ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ» ثُمَّ أَخَذَ بِيْدِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلَيْهُ، فَهَذَا وَلَيْهُ، اللَّهُمَّ وَالِّيْ مَنْ وَالَّاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ» فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ أَحَدٌ إِلَّا رَأَهُ بِعِنْيَتِهِ، وَسَمِعَهُ بِأَذْنِيْهِ»

79۔ سیدنا زید بن ارمیہؑ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ جستہ الوادع سے واپس پلٹے تو غدیر خم کے مقام پر اترے اور خیسے کھڑے کرنے کا حکم کا دیا پھر فرمایا: گویا کہ مجھے دعوت دی گئی ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے [پھر فرمایا] میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں ان میں ایک دوسری سے بڑی ہے ایک اللہ کی کتاب [یعنی قرآن] اور دوسری میری عترت [یعنی میرے اہل

بیت [البَّةٌ] تم غور کرو کہ میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیسا برداشت کرتے ہو؟ یہ دونوں [قرآن اور اہل بیت] ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پیش ہو جائیں گے، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ میرا مولیٰ ہے اور میں ہر مومن کا مولیٰ ہوں، پھر آپ ﷺ نے سیدنا علیؑ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر فرمایا: جس کا میں دوست ہوں، علیؑ بھی اس کا دوست ہے پھر آپ ﷺ نے مزید فرمایا: اے اللہ جو علیؑ کا دوست ہے اس کو تو بھی اپنا دوست بنانا جو علیؑ کا دشمن ہے اس کو تو بھی اپنا دشمن بنانا۔ میں نے زید سے کہا: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے؟۔ سیدنا زیدؑ نے جواب دیا: ہاں میں نے بھی اور جو کوئی بھی خیموں میں موجود تھا اس نے اپنی آنکھوں سے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔

تحقیق

[اسناد ضعیف]

جیب بن الیثابت کی تدليس ہے، سماع کی تصریح نہیں کی۔

تخریج:

المجمع الکبیر للطبرانی: 185/5، 186؛ المستدرک للحاکم: 3/109؛ صحیح علی شرط الشفیعین واقرہ الذبی

80۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْيَدَةَ، عَنْ أَبْنِ بُرْنَدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، وَاسْتَغْمَلَ عَلَيْنَا عَلِيًّا، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَأَلَنَا: «كَيْفَ رَأَيْتُمْ صُحبَةَ صَاحِبِكُمْ؟» فَإِلَمَا شَكَوْتُهُ أَنَا، وَإِلَمَا شَكَاهُ غَيْرِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَكُنْتُ رَجُلًا مِكْبَابًا فَإِذَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ قَدِ اخْمَرَ فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيًّا، فَعَلَيْهِ وَلِيًّا»

80۔ سیدنا بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو کسی لشکر کے ساتھ بھیجا اور اس کا امیر سیدنا علیؑ کو مقرر فرمایا جب ہم وہاں سے واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: تم نے اپنے

ساتھی کی صحبت [رفاقت] کو کیسا پایا، میں نے یا میرے علاوہ کسی اور آدمی نے آپ ﷺ سے سیدنا علیؑ کی شکایت کی اور میں [آپ کی محفل میں] سرجھکا کر رکھنے والا شخص تھا مگر جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو نبی کریم ﷺ کا رخ انور [غصے کی وجہ سے] سرخ ہو چکا تھا، تو فرمایا: جس کا میں دوست ہوں علیؑ بھی اس کا دوست ہے۔

تحقیق

[اسناد ضعیف]

اس روایت کی سند میں اعشش کی تدلیس ہے، سامع کی تصریح نہیں مل سکی۔ اسی طرح الحجم الصغير للطبرانی (71/1)، حلیۃ الاولیاء لابی نعیم الاصحہنی (23/4) والی سند سفیان بن عینیہ کی تدلیس کی وجہ سے "ضعیف" ہے۔

تخریج:

مصنف ابن ابی شہیۃ: 12/57؛ مندالامام احمد: 5/350؛ استدرک للحاکم: 2/129، و قال "صحیح علی شرط الشیخین" وافقه الذہبی۔

81۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرْنَدَةُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَلَيِّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَلَمَّا رَجَعْتُ شَكُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: يَا بُرْنَدَةَ «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيِّ مَوْلَاهُ»

81۔ سیدنا بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے سیدنا علیؑ کے ساتھ یہن بھیجا، وہاں سیدنا علیؑ کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ یہن سے واپسی پر میں نے آپ ﷺ سے سیدنا علیؑ کی شکایت کی۔ نبی کریم ﷺ نے سرمبارک اٹھایا اور فرمایا: اے بریدہ! جس کا میں دوست ہوں علیؑ بھی اس کا دوست ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

اس سند میں حکم بن عتیبہ کی تدلیس ہے، سامع کی تصریح نہیں مل سکی۔

82- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرْيَنْدَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلَيِّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوًةً، فَقَدِيمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ عَلَيْهِ، فَتَنَقَّصَتْهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ وَقَالَ: يَا بُرْيَنْدَةَ «أَلَسْنُتْ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ؟» قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلَيِّ مَوْلَاهُ»

82- سیدنا بریدہ رض سے روایت ہے کہ میں سیدنا علی رض کے ساتھ یمن کی طرف نکلا، وہاں سیدنا علی رض کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ یمن سے واپسی پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رض کی شکایت کی اور [نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم] کے سامنے [ان] [سیدنا علی رض] کی تقیص کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا: اے بریدہ! کیا میں مسلمانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ میں نے کہا: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا: جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

حکم بن عتیبہ مدرس ہیں، سامع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخریج:

مصنف ابن ابی شہیۃ: 83/12؛ منداد امام احمد: 347/5؛ المترک للحاکم: 3/110 و قال

”صحیح علی شرط مسلم“

83۔ اخْبَرَنِي رَكَبِيَا بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىٰ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاؤْدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلَيْهِ مَوْلَاهٌ»

83۔ سیدنا سعد بن ایمن سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس کا میں دوست ہوں، علی ہمی اس کا دوست ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد صحیح]

84۔ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مَيْمُونَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: زَنْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا تَعْلَمُونَ أَنَّى أَفْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟» قَالُوا: بَلَى، نَحْنُ نَشَهِدُ لِأَنَّ أَفْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ: «فَإِنَّمَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَهُذَا مَوْلَاهُ» أَخَذَ بِيَدِ عَلَيْهِ

83۔ سیدنا زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و شنبیان کی۔ پھر خطبہ ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کے لئے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہر مومن کے لئے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو آپ ﷺ نے سیدنا علیؑ کا ہاتھ تھام کر فرمایا: جس کا میں دوست ہوں یہ علی ہمی اس کا دوست ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

اس روایت کی سند میں ابو عبد اللہ میمون ضعیف ہے۔

[تقریب التہذیب لابن حجر: 7051]

تخریج:

مند الامام احمد: 372/42؛ مجمع الکبیر للطبرانی: 229/5

85۔ اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّسِيَّابُورِيُّ، وَأَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوَدِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي هَانِئُ بْنُ أَيُوبُ، عَنْ طَلْحَةَ الْأَيَامِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِيرَةُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيْاً وَهُوَ يُتَشَدِّدُ فِي الرَّحْبَةِ مِنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ، فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ؟، فَقَامَ بِضُعْفَةِ عَشَرَ فَشَهَدُوا»

85۔ عمیرہ بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدنا علی ڈیکٹو ایک وسیع میدان میں فرمائے تھے: تم میں سے کس نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے ساختا: جس کا میں دوست ہوں یہ علی بھی اس کا دوست ہے، تو اس سے زائد آدمیوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی، [کہ انہوں نے اس حدیث کی آپ سے ساعت کی ہے۔]

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

عمیرہ بن سعد کے بارے میں امام یحییٰ بن قطان ہبہیہ فرماتے ہیں:

”لم یکن عمیرۃ بن سعد فمن یعتمد علیہ۔“

”عمیرہ بن سعد ایسا راوی نہیں ہے، جس پر اعتماد کیا جائے۔“

(الجرح والتعديل لابن ابی حاتم: 7/24)

86۔ اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: قَامَ خَمْسَةُ أَوْ سِتَّةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهَدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ، فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ»

۸۶۔ سعید بن وصبؓ سے روایت ہے کہ [جب سیدنا علیؑ نے ان (صحابہ کرام) سے گواہی طلب کی تو] اصحاب النبی ﷺ میں سے پانچ یا چھ نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ (واقعی ہی) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کا میں مولیٰ (دost) اس کا علیٰ مولیٰ (دost) ہے۔

تحقیق

[اسناد صحیح]

تخریج:

مسند الامام احمد: 336/5:

۸۷۔ أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلَيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ قَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ يَتَّبِعِي: «وَقَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ»

۸۷۔ سعید بن وصبؓ سے روایت ہے کہ میرے قریب سے چھ حضرات کھڑے ہوئے اور زید بن شیعؓ نے کہا: میرے قریب سے بھی چھ حضرات نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ انہوں نے نار رسول اللہ ﷺ فرمادی: جس کا میں مولیٰ (دost) ہوں، بلاشبہ علیٰ بھی اس کا مولیٰ (دost) ہے۔

تحقیق و تخریج:

[صحیح]

۸۸۔ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاؤْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يَتَّبِعِي قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: إِنَّمَا مُنْشِدُ اللَّهِ رَجُلًا، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْنَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالَّهُمَّ مَنْ وَالَّهُ أَعْلَمُ مَنْ عَادَاهُ؟» . فَقَامَ سِتَّةٌ مِنْ

جَانِبُ الْمُنْتَرِ، وَسَيْئَةٌ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ ”

فَالشَّرِيكُ: فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: هَلْ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
فَالْأَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنَ: عِمْرَانَ بْنَ أَبَانَ لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ۔

۸۸۔ زید بن شیعہؑ سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدنا علی بن ابی طالبؑ کو فکی مسجد کے منبر پر فرمائے تھے: میں اس آدمی سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اصحاب النبی ﷺ کے علاوہ کوئی گواہی نہ دے کہ جس نے سا رسول اللہ ﷺ ”غدیر خم“ کے دن پر فرمائے تھے: جس کا میں مولیٰ (دوست) اس کا علی مولیٰ (دوست) ہے۔ اے اللہ! تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنائے اور اس کو اپنا دشمن بنا جو اس کو دشمن بنائے تو منبر کی ایک جانب سے چھ حضرات کھڑے ہوئے اور چھ حضرات دوسری جانب سے کھڑے ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے سنا ہے رسول اللہ ﷺ (غدیر خم کے مقام پر) اسی طرح فرمائے تھے۔

شریکؑ کہتے ہیں: میں نے ابو اسحاقؑ سے پوچھا: کیا آپؑ نے یہ روایت سیدنا براء بن عازبؑ سے سنی ہے کہ وہ بھی رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ہاں! امام نسائیؑ کہتے ہیں: اس روایت میں ایک راوی عمران بن ابان حدیث میں قوی نہیں ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابو اسحاق ملس ہیں جو کہ لفظ ”عن“ سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح میں نہیں مل سکی، عمران بن ابان راوی ضعیف ہے۔

تخریج:

مسند الامام احمد: 118/1

ذکر قول النبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: «عَلَیٰ وَلیٌ کُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِی»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”میرے بعد علی ہر مومن کا ولی (دوست) ہے“

89۔ أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِيبٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، وَاسْتَغْفَلَ عَلَيْهِمْ عَلَيٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَمَضَى فِي السَّرِيرَةِ، فَأَصَابَتْ جَارِيَةً، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، وَتَعَاقَدُوا أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنَ السَّفَرِ بَدَءُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ انصَرَفُوا إِلَى رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيرَةُ سَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ «أَلَمْ تَرَ إِلَى عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَنَعَ كَذَّا وَكَذَّا؟» فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ يَعْنِي الثَّانِي، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلَيِّ؟ إِنَّ عَلَيَا مِنْهُ، وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي»

۸۹۔ سیدنا عمران بن حسین رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اور سیدنا علی بن ابی طالب رض کو ان کا امیر بنایا۔ جنگ کے اختتام پر (مالی غیبت کی تقسیم میں) ایک لونڈی سیدنا علی رض کے حصہ میں آگئی۔ اس وجہ سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے چار نے آپ میں یہ عہد کیا کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ سے ملیں گے تو اس واقعہ کی ضرور (آپ ﷺ کو) خبر دیں گے۔ جب مسلمان سفر سے واپس لوئتے۔ ان کا معیوب یہ ہوتا تھا کہ وہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہی چار میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رض نے یوں یوں کیا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا چہرہ انور اس سے پھیر لیا تو دوسرا کھڑا ہوا اس نے بھی اسی طرح کہا: پھر تیسرا کھڑا ہوا اس نے بھی اس کی مثل بات کی پھر چوتھا کھڑا ہوا اس نے بھی وہی کہا جو اس سے پہلے (اس کے ساتھی) رسول اللہ ﷺ کو کہہ چکے تھے۔ رسول اللہ ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ریخ انور پر غصہ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم علی کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہو۔ بلاشبہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی (دوست) ہے۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

તخریج:

مند الطیاری: 829؛ مند الامام احمد: 437/4؛ سنن الترمذی: 3712 و قال "هذا حديث حسن غريب"؛ المستدرک للحاکم: 3/110 و صحیح الحاکم و وافقه الذہبی و صحیح ابن حبان (6929)

ذِكْرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْيْ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”میرے بعد علیٰ تمہارا ولی (دوست) ہے“

90۔ أَخْبَرَنَا وَأَصْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَغْرَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرْنَدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَبَعْثَتْ عَلَيْهَا عَلَى جِيشٍ آخَرَ، وَقَالَ: «إِنَّ التَّقْيَيْتَمَا فَعْلِيٌّ عَلَى النَّاسِ، إِنَّ تَفَرَّقْتَمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى حِدَتِهِ» فَلَقِيَنَا بَنِي زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَظَاهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَفَتَّلُنَا الْمُقَاتَلَةُ، وَسَبَيَنَا الدُّرَيْةَ، فَاصْطَطَقَ عَلَيْهِ جَارِيَةً لِنَفْسِهِ مِنَ السَّبْنِيِّ، فَكَتَبَ بِذِلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرَنَيَ أَنْ أَنَالَ مِنْهُ " قَالَ: «فَدَفَعْتُ الْكِتَابَ إِلَيْهِ، وَنَلَّتْ مِنْ عَلَيَّ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقُلْتُ: هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ، بَعْثَتْنِي مَعَ رَجُلٍ وَأَمْرَتِنِي بِطَاعَتِهِ، فَبَلَّغْتُ مَا أُزِيلْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْعَنَ يَا بُرْنَدَةُ فِي عَلَيِّ، فَإِنَّ عَلَيِّاً مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي»

90۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یک بھیجا پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ایک دوسرا لشکر بھیجا اور فرمایا: جب دونوں لشکر مل

جاں میں تو سارے شکر کے امیر علی ہوں گے، اگر تم الگ الگ رہے تو ہر شکر کا امیر الگ ہوگا، اہل یمن کے قبلے ”بنی زید“ میں ان کی ہمارے ساتھ ملاقات ہو گئی (جنگ شروع ہوئی) مسلمان مشرکین پر غالب آگئے لڑنے والوں کو ہم نے قتل کیا۔ ان کی اولاد کو قیدی بنایا۔ ان میں سے ایک کنیز کو سیدنا علی ڈالنڈز نے اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید ڈالنڈز نے اسی وقت بنی کریم ملک کو خط لکھا اور مجھے حکم دیا کہ وہ خط میں آپ ملک کے پہنچاؤ۔ البتہ میں نے وہ خط آپ ملک کی خدمت میں پیش کیا اور میں نے بھی سیدنا علی ڈالنڈز کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہوئے کچھ کہا: اس پر بنی کریم ملک کا چہرہ اقدس غصے سے متغیر ہو گیا۔ میں نے (اپنے دل میں) کہا: یہ مقام تو پناہ طلب کرنے کا ہے۔ اللہ کے بنی ملک! آپ نے مجھے ایک ایسے آدمی کے ساتھ بھیجا جس کی بات کو ماننا مجھ پر لازم تھا۔ جو اس نے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دیا، میں نے وہ پہنچا دیا تو رسول اللہ ملک نے فرمایا: اے بریدہ! علی کی تتفیص مت کرنا۔ بلاشبہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد تمہارا ولی (دost) ہے۔

تحقیق:

[اسنادہ حسن]

تخریج:

مسند الامام احمد: 365/5

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّ عَلَيْنَا فَقَدْ سَبَّنِي»

نبیٰ کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”جس نے علیٰ کو برآ بھلا کہا، بلاشبہ اس نے مجھے برآ بھلا کہا۔“

91- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدْلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: «أَيْسُبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُمْ؟» فَقُلْتُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ مَعَاذَ اللَّهِ» قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَبَّ عَلَيْنَا فَقَدْ سَبَّنِي»

91- ابو عبد اللہ الجدلی سے روایت ہے کہ میں سیدہ ام سلمہ ؓ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے سے کہا: کیا تم لوگ رسول اللہ ﷺ کو برآ بھلا کہتے ہو؟ میں نے کہا: سبحان اللہ! [اللہ پاک ہے، یہ عربی محاورہ ہے] یا معاذ اللہ [اللہ کی پناہ] کہا: [یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک کلمہ کہا] تو وہ کہنے لگیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرمارے تھے: جس نے علیٰ کو برآ بھلا کہا، بے شک اس نے مجھے برآ بھلا کہا۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابو اسحاق مدرس ہے، سماع کی تصریح نہیں کی۔

تحریک:

مند الامام احمد: 323/6؛ المستدرک للحاکم: 121/3؛

یہ روایت متدرک حاکم (121/1) میں بکر بن عثمان بھلی عن ابی اسحاق کے طریق سے آتی ہے۔ لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

۱۔ بکر بن عثمان بھلی راوی "مجہول" ہے۔

۲۔ ابو اسحاق کا احتلاط ہے۔

۳۔ جندل بن والق راوی ضعیف ہے۔

تبیہ:

ابو عبد اللہ جدی دیوبندی سے روایت ہے:

قالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: «أَيْسَبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُمْ عَلَى رُؤُومِ النَّاسِ؟» قَفَّلَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَأَكَلَ يُسَبِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ يُجِبُهُ: فَأَشَهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجِبُهُ»

"سیدہ ام سلمہ دیوبندی نے مجھے فرمایا: آپ لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ ﷺ کو سر عام بر اجلا کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا: سبحان اللہ! کیا رسول اللہ ﷺ کو بر اجلا کہا

جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ لوگ سیدنا علیؑ اور ان سے محبت کرنے والوں کو برا

بھلا کہتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ ﷺ سیدنا علیؑ سے محبت کرتے تھے۔“

(منابی یعلیٰ: 7013، مجمع الکبیر للطبرانی: 323/23، مجمع الصغیر للطبرانی: 822؛ وسندہ حسن)

ابو جعاء عطاردی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

لَا تَسْبُوا عَلِيًّا، وَلَا أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، إِنَّ حَارِزاً لَنَا مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ

قَدِيمَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَوْا هَذَا الْفَاسِقَ ابْنَ الْفَاسِقِ؟ إِنَّ

اللَّهَ قَتَلَهُ، يَعْنِي الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: فَرَمَاهُ اللَّهُ بِكَوْكَبِينِ

فِي عَيْنِيهِ، فَطَمَسَ اللَّهُ بَصَرَهُ.

”تم سیدنا علیؑ اور ان کے اہل بیت پر لعن طعن مت کرو۔ بنو ہیم سے تعلق رکھنے

والا ہمارا ایک پڑوسی جو کوفہ سے آیا تھا، اس نے کہا: دیکھو اس فاسق ابن فاسق کو یعنی

سیدنا حسینؑ کو [نحوہ باللہ] اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس شخص کی دونوں آنکھوں میں دو آسمانی انگارے مارے

جس سے اس کی بینائی ختم ہو گئی۔“

[فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل: 972، مجمع الکبیر للطبرانی: 3/119؛ وسندہ صحیح]

92۔ اخْبَرَنَا عَبْدُ الأَغْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَى، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْوَ بَكْرِ بْنُ حَالِدٍ بْنِ عُرْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بِإِمْدِينَةِ فَقَالَ: «ذُكِرَ أَنَّكُمْ تَسْبُونَ عَلِيًّا» قُلْتُ: «فَذَ فَعَلَنَا» قَالَ: «لَعْلَكَ سَبَبْتُهُ؟» قُلْتُ: «مَعَاذَ اللَّهِ» قَالَ: «لَا تَسْبِهِ، فَإِنْ وُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مِفْرَقِ عَلَى أَنْ أَسْبِهِ عَلِيًّا مَا سَبَبْتُهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعْتُ»

92۔ ابو بکر بن خالد بن عرفظ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں سیدنا سعد بن ما لکؑ کی زیارت کی۔ انہوں نے کہا: مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ سیدنا علیؑ کو برا بھلا کہتے ہو؟ میں نے عرض

کیا: واقعی ہم نے (بھلا کیا) یہ کام کیا ہے؟۔ انہوں نے کہا: شاید کہ تم سیدنا علیؑ کو برا بھلا کہتے ہو؟ میں نے کہا: معاذ اللہ کی پناہ) انہوں نے کہا: تم ان کو برا بھلامت کہنا۔ اگر میرے سر پر آری رکھ دی جائے کہ میں علیؑ کو برا بھلا کہوں تو پھر بھی میں ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد کہ جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے ان کے بارے میں سن رکھا ہے۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

مصنف ابن ابی شیعیہ: 12/80؛ مسند ابی یعلیٰ: 777؛ المختارۃ للفضیاء المقدسی: 1017
حافظ بیشی فرماتے ہیں: ”اس کی سند حسن ہے“ (مجموعہزادہ: 9/130)

تُشبیهہ:

سیدنا سعد بن ابی وقارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
من اذی علیاً فقد أذانی۔

”جس نے نلی کو تکلیف دی، بلاشبہ اس نے مجھے تکلیف دی۔“

(رواہ مفتاح الصحابة للقطعنی: 1078، وسند حسن)

التَّرْغِيبُ فِي مُوَالَةِ عَلَيِّ «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» ، وَالتَّرْهِيبُ فِي مُعَادَاتِهِ

سیدنا علی ڦالٰئِ غٰؒ سے دوستی رکھنے کی ترغیب اور ان کی دشمنی میں ترہیب

478

93- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْنَعُبُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ حَلِيلَةَ، عَنْ أَبِي الطَّفْيَلِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُلِيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ، عَنْ أَبِي الطَّفْيَلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ قَالَ: جَمِيعُ عَلَيِّ النَّاسِ فِي الرَّحْبَةِ فَقَالَ: «أَنْشَدْتُ بِاللَّهِ كُلَّ امْرِي سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خَمْ مَا سَمِعَ، فَقَامَ أَنَاسٌ فَشَهَدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خَمْ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَتِيَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ؟، وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلَيِّ» فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيِّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِّي مَنْ وَالَّهُ، وَعَادَ مَنْ عَادَهُ» قَالَ أَبُو الطَّفْيَلِ: «فَخَرَجْتُ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَقِيقْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَأَخْبَرْتُهُ» فَقَالَ: «أَوْمَا تُنْكِرُ؟ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» **وَاللُّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ**

93- سیدنا ابو طفیل عامر بن واٹله ڦالٰئِ غٰؒ سے روایت ہے کہ سیدنا علی ڦالٰئِ غٰؒ ایک وسیع میدان میں لوگوں کے ساتھ جمع تھے تو انہوں نے فرمایا: میں ہر اس مسلمان آدمی سے اللہ تعالیٰ کی قسم لے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ ﷺ سے ساتھا کہ جو کچھ آپ ﷺ نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا تو لوگوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ غدیر خم کے دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں

مومنین کے لئے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ اس وقت آپ ﷺ کھڑے تھے، سیدنا علیؑ کا ہاتھ تھام کر فرمایا: جس کا میں دوست ہوں یہ علیؑ بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ! جو علیؑ کو پنا دوست بنائے، اس کو تو بھی اپنا دوست بناؤ اور جو علیؑ کو دشمن بنائے، اس کو تو بھی اپنا دشمن بناء۔

حدیث کے راوی سیدنا ابو طفیلؓ کہتے ہیں: میں وہاں سے چلا اور جو اس حدیث کے بارے میں میرے دل میں (شکوک و شبہات) تھا وہ نکال دیا۔ میں سیدنا زید بن ارقمؓ سے ملا، میں نے یہ روایت ان کو بیان کی (تاکہ مزید تصدیق ہو جائے) انہوں نے کہا: کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سماعت کی ہے۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

مسند الامام احمد: 370/4؛ النہ لابن عاصم: 1368؛ صحیح ابن حبان: 6931

94۔ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ الْمَهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ بْنِتِ سَعْدٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَهْمَّ النَّاسُ، فَإِنَّمَا وَلِيُّكُمْ» قَالُوا: صَدَقْتَ، ثُمَّ أَخْدَدْتَ بَيْدَ عَلَيِّ فَرَقَعَهَا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وَلِيَ وَالْمُؤْدِي عَيْ، وَاللَّهُ مَنْ وَالَّهُ وَعَادَ مَنْ عَادَهُ»

95۔ سیدنا سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا: اما بعد اے لوگو! بلاشبہ میں تمہارا ولی (دوست) ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ نے سچ فرمایا تو آپ ﷺ نے سیدنا علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا پھر فرمایا: یہ میرا ولی (دوست) ہے اور میری طرف سے ذمہ داری

کو بچانے والا ہے۔ اے اللہ! جو اسے دوست رکھے، اس کو تو اپنا دوست بنा اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد حسن]

موئی بن یعقوب "حسن الحدیث" ہے۔

95۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبْنُ الْجَوْزَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ الْمَهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ بْنِتِ سَعْدٍ قَالَتْ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَلَيِّ، فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلَيِّ فَرَعَفَهَا فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيًّا فَهُنَّا وَلِيًّا، فَإِنَّ اللَّهَ يُوَالِي مَنْ وَالَّذُو، وَيُعَادِي مَنْ عَادَاهُ»

95۔ سیدہ عائشہ بنت سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علیؑ کا ہاتھ تھام کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی حمد و شاہیان کی پھر فرمایا: کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ، آپ نے سچ فرمایا تو آپ ﷺ نے سیدنا علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا پھر فرمایا: جو تم میں سے مجھے ولی (دوست) رکھتا ہے تو یہ اس کا ولی (دوست) ہے، بلاشبہ اللہ بھی اس سے دوستی رکھتا ہے جو اس سے دوستی رکھتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے جو اس سے دشمنی رکھتا ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد حسن]

موئی بن یعقوب زمی اور محمد بن خالد بن عثمانہ دونوں "حسن الحدیث" راوی ہیں۔

96۔ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مَهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ ابْنَتُهُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُوْجَهٌ إِلَيْهَا، فَلَمَّا بَلَغَ عَدِيرَ خُمٍ وَقَفَ النَّاسُ، ثُمَّ رَدَّ مَنْ مَضَى، وَلَحِقَهُ مَنْ تَخَلَّفَ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ: «أَئْهَا النَّاسُ هَلْ بَلَغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهِدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَئْهَا النَّاسُ مَنْ وَلَيْكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثَلَاثَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَاهُ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْهُ، فَهُدَا وَلِيُّهُ، اللَّهُمَّ وَالِّيَ مَنْ وَاللَّهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ»

۹۶۔ سیدنا سعد بن ابی وقاریؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مکہ مکران کے راستے میں (سفر کر رہے) تھے، آپ ﷺ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب ”عدیر خم“ کے مقام پر پہنچ تو لوگوں کو روک دیا۔ جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس لوٹایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آکرم گئے۔ جب لوگ آپ ﷺ کے ارد گرد جمع ہو گئے تو فرمایا: اے لوگو! کیا میں نے (اپنا پیغام) پہنچا دیا۔ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! تو فرمایا: اے اللہ اس پر گواہ رہنا۔ اس بات کو آپ ﷺ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تمہارا ولی (دost) کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول۔ تین مرتبہ انہوں نے کہا، پھر آپ ﷺ نے سیدنا علیؑ کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا پھر فرمایا: جو تم میں اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کو ولی (دost) رکھتا ہے تو یہ اس کا ولی (دost) ہے۔ اے اللہ! جو اس کو دost رکھے تو اس کو اپنا دost بنانا اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔

تحقیق

[اسناد ضعیف]

یعقوب بن جعفر بن ابی کثیر مدینی ”مجھول“ راوی ہے۔

تخریج:

تاریخ دمشق لابن عساکر: 223/42

الْتَّرْغِيبُ فِي حُبِّ عَلَيِّ، وَذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَبَّهُ، وَدُعَائِهِ عَلَى مَنْ أَبْغَضَهُ

سیدنا علیؑ کے ساتھ محبت کی ترغیب، اس آدمی کے لئے نبی
کریم ﷺ کی دعائے خیر کا بیان جو سیدنا علیؑ سے محبت کرے
اور اس کے حق میں بد دعا جو سیدنا علیؑ سے بغض رکھے

97. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ
أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَبْغَضَ إِلَيْيَ مِنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَتَّى أَخْبَيْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَا
أَحِبُّهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلَيِّ، فَبَعْثَتْ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى حَنِيلٍ، فَصَبَحَتْهُ، وَمَا أَصْبَحَهُ
إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلَيِّ، فَأَصَابَتْ سَبِيْلًا، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَنْبَغِي إِلَيْهِ مَنْ يُخْمِسُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلَيِّاً، وَفِي السَّبَيْنِ وَصِيقَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبَيْنِ.
فَلَمَّا حَمَسَهُ صَارَتِ الْوَصِيقَةُ فِي الْخُمُسِ، ثُمَّ حَمَسَ فَصَارَتِ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ حَمَسَ فَصَارَتِ فِي آلِ عَلَيِّ، فَأَتَانَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقُلْنَا: مَا

هذا؟ فقال: «أَلْمَ تَرَوَا الْوَصِيفَةَ؟ صَارَتْ فِي الْخُمُسِ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا، فَكَتَبَ وَبَعْثَيْنِي مُصَدِّقًا لِكَتَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا» لِمَا قَالَ عَلِيٌّ: فَجَعَلْتُ أَقْوَلُ عَلَيْهِ وَقِيلُولُ: «صَدَقٌ» وَأَقْوَلُ: وَقِيلُولُ: «صَدَقٌ، فَأَمْسَكَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَقَالَ: «أَتَبْغَضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: «لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَأَرْذَدْ لَهُ حُبًّا، فَوَاللَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ» فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبٌ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ: «وَاللَّهِ مَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي»

۹۷۔ سیدنا بریہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بغرض رکھتا تھا، یہاں تک کہ میں ایک قریشی شخص سے صرف اسی وجہ سے محبت کرتا تھا کہ وہ سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغرض رکھتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک لشکر کا امیر مقرر کیا، میں بھی اس کے ساتھ رکھتا تھا، میری اس کے ساتھ رفاقت صرف اسی بنا پر تھی کہ وہ سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغرض رکھتا تھا پس [ہمیں اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو] وہاں کچھ قیدی ملے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ کوئی ایسا شخص بھیج دیں جو ہم میں مال غنیمت تقسیم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قیدیوں میں ایک کنیز تھی جو کہ تمام قیدیوں سے بہتر تھی، انہوں نے تقسیم شروع کی تو وہ کنیز اہل بیت کے خس میں آگئی پھر خس حصوں کی تقسیم کی تو وہ سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حصے میں آئی۔ جب سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، ہم نے کہا: یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے: کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ کنیز خس میں آگئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور بعد میں آل علی کے حصے میں آئی، البتہ اس [میرے ساتھی] نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا اور اپنے خط کی تصدیق کے لئے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان باتوں کی تصدیق کی غرض سے جو سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تھیں، جب قاصد نے خط پڑھ کر سنانا شروع کیا تو میں عرض کرتا: یہ حق کہہ رہا ہے، آگے پڑھتا، تو میں کہتا: میں بھی اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا

ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ کپڑا لیا [یعنی مجھے خاموش کروادیا] پھر ارشاد فرمایا: اے بریدہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم اس سے بعض مت رکھو بلکہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو ان کے ساتھ اپنی محبت کو زیادہ کرو، اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے، علی کی اولاد کے لئے خمس اس کنیز سے افضل ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کے بعد اللہ کی قسم میں لوگوں میں سب سے زیادہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے لگا۔

سیدنا عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! اس حدیث میں میرے والد اور نبی کریم ﷺ کے درمیان میرے علاوه اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ [یعنی اس حدیث کو میرے باپ نے نبی کریم ﷺ سے اور ان سے میں نے سنی ہے]

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

مند الامام احمد: 5 / 50 / 3: شرح مشکل الآثار للطحاوی: 4 / 60 / 1؛ وآخرجه

البخاری: 4350؛ بمحضرا

98۔ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ فِي الرَّحْبَةِ: أَنْشُدْ بِاللَّهِ مِنْ سَمْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ حُمَّ مَيقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ كُنْتُ وَلِيًّا فَهُنَا وَلِيُّهُ، اللَّهُمَّ وَالَّهُمَّ مَنْ وَالَّهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانصُرْ مَنْ نَصَرَهُ». قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: «قَامَ إِلَى جَنِيِّ سِتَّةٍ» وَقَالَ زَيْدُ بْنُ يُثَنِّيغٍ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ». وَقَالَ عَمْرُو ذُو مَرِّ: «أَحِبُّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَأَبْغِضُ مَنْ أَبْغَضَهُ» وَسَاقَ

الْحَدِيثُ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أُبْيِ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو ذِي مَرِّ «أَحِبٌ»

۔ ۹۸ - سعید بن وہب رض سے روایت ہے کہ سیدنا علیؑ ٹھیک و سیع میدان میں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کس نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ ندیر خم کے دن فرمار ہے تھے: بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمام مونین کا ولی [دوست] ہے، جس شخص کا میں دوست ہوں تو یہ [علیٰ] بھی اس کا دوست ہے، اے اللہ! علیٰ کے دوست کو تو بھی اپنا دوست بنا اور علیٰ کے دشمن کو اپنا دشمن بنا اور اس کی مدد فرما جو اس کا معاون بنے۔

سعید بن وھب رض بیان کرتے ہیں: میرے پاس سے چھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور زید بن شیع رض کہتے ہیں: میرے پاس سے چھے حضرات کھڑے ہوئے اور عمر و ذو مر نے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے: اے اللہ! اس شخص سے محبت رکھ جو اس [علیٰ] سے محبت رکھے اور اس شخص سے بغضہ رکھ جو اس [علیٰ] سے بغضہ رکھے۔

امام نسائی رض فرماتے ہیں: اسرائیل نے اس روایت کو عنابی اسحاق شیبانی، عن عمر و ذی مر کی سند سے [احب] کے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

اعمش "مس" اور ابو اسحاق راوی "مس" اور "مختلط" ہے۔

۔ ۹۹ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو ذِي مَرِّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو ذِي مَرِّ قَالَ: "شَهِدْتُ عَلَيْا بِالرَّحْبَةِ يَنْشُدُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ مَا قَالَ: فَقَامَ أَنْاسٌ فَشَهَدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ عَلَيَّاً مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالَّذِي مَنْ وَالَّذِي وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ، وَأَبْغَضَ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَأَنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ

۹۹۔ عمرو و ذومرؓ سے روایت ہے کہ میں سیدنا علیؑ کے ساتھ ایک وسیع میدان میں موجود تھا، وہ صحابہ کرام کو قسم دے کر کہہ رہے تھے: کس نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو آپ ﷺ نے دیر خم کے دن فرمادے تھے؟ تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا، آپ ﷺ فرمادے: میرا دوست علیؑ کا دوست ہے۔ اے اللہ! علیؑ کے دوست کو تو بھی اپنا دوست بنا اور علیؑ کے دشمن کو اپنا دشمن بنا، اس شخص سے محبت رکھ جو اس [علیؑ] سے محبت رکھے، اس شخص سے بغض رکھ جو اس کے ساتھ بغض رکھے اور اس کی مدد فرا جو اس کا معاون بنے۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

ابو اسحاق ”مس“ ہے، سماع کی تصریح نہیں کی۔ عمرو و ذومر، ہدایی ”ثقة“ ہیں۔

الْفَرَقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ

مؤمن اور منافق کے درمیان فرق کا بیان

100۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ
بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرَّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: وَالَّذِي فَاقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَا النَّسْمَةَ لَعِنْهُ
النَّبِيُّ الْأَمِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ: «لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْفَضُّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ»
100۔ سیدنا علی [رض] سے روایت ہے کہ اس ذات کی قسم! جس نے دانے کو پھاڑا (یعنی اس سے
درخت اور پودے اگائے) اور جانداروں کو پیدا فرمایا۔ نبی اُمیٰ [صلی اللہ علیہ وسلم] نے مجھے وصیت فرمائی: مجھ سے
مجبت نہیں کرے گا مگر مؤمن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔

تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 78

101۔ أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ
بنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرَّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: عَبِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَنْ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْفَضُّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ»
101۔ سیدنا علی [رض] سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ مجھ سے مجبت نہیں
کرے گا مگر مؤمن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔

تحقیق:

[اسناده صحیح]

تخریج:

مند الامام احمد: 128، 95/1؛ مند الحمیدی: 58؛ سنن الترمذی: 3736 و قال "حسن صحیح"؛ سنن ابن ماجہ: 114.

102۔ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ. عَنْ عَدِيٍّ. عَنْ زَرِّ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: «إِنَّهُ لَعَنْهُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الَّذِي أَنْهَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِلَهٌ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَلَا يَنْغَضِلُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ»

102۔ سیدنا علی ڈائريڪٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے دیت فرمائی ہے کہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور تم سے بغضا نہیں رکھے گا مگر منافق۔

تحقیق:

[اسناده صحیح]

تخریج:

مند الامام احمد: 128، 95/1؛ مند الحمیدی: 58

ذِكْرُ الْمُثَلِ الَّذِي ضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

نبی کریم ﷺ کا سیدنا علی بن ابی طالب ؓ

کے لیے مثال ذکر کرنے کا بیان

103۔ اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَجَازِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمُلْكِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «فِيهِكَ مَثَلٌ مِّنْ عِيسَى، أَنْفَضَتْهُ هَرُودٌ حَتَّىٰ هَبَّتُوا أُمَّةً، وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ أَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ»

103۔ سیدنا علی ؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا: اے علی! یہ مثال عیسیٰ بن مریم کی سی ہے کہ یہودیوں نے ان سے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگادیا اور نصاریٰ نے ان سے محبت کی اور ان کو اس مقام تک پہنچا دیا جوان کا نہیں تھا۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

حکم بن عبد الملک قرثی ضعیف ہے۔ [تقریب التہذیب لابن حجر: 1451]

تخریج:

السنة لابن أبي عاصم: 1004؛ زوائد مسنداً الإمام أحمد: 1/160؛ المستدرك للحاكم: 3/123
وقال "صحح الأساند" وتعقبه الذهبي

شبیہ :

سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِيَ، وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا
النَّارَ فِي بُغْضِي

"ایک قوم میری محبت میں غلوکی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی، دوسری قوم میرے
سامنے بغض کے سبب آگ میں داخل ہوگی۔"

(السنة لابن أبي عاصم: 983، وسدة صحیح)

ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقُرْبِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِرُوْقِهِ بِهِ، وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت

داری جو کہ انتہائی قریبی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کا بیان

104۔ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْخَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «كَانَ مِنَ الَّذِينَ تَوَلَّوْا يَوْمَ التَّقْوَى الْجَمِيعَانِ، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا فَقُتْلُوهُ» وَسَأَلَهُ عَنْ عَلَيِّيَّ فَقَالَ: «لَا تَسْلُنَ عَنْهُ، إِلَّا قُرْبَ مَنْزِلَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

105۔ عَلَاءُ بْنُ عَرَاءَ رَوَى أَنَّهُ كَانَ آدَمَ نَسْأَلَ عَنْ سَيِّدِنَا عَطَّانَ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا: انہوں نے فرمایا: وہ ان لوگوں میں سے تھے جو دُگروہوں کے مقابلے کے دن (یعنی جنگِ أحد) پیچے پھر گئے تھے۔ (انہوں نے توبہ کی) اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی پھر ان سے ایک بھول ہوئی تو لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ پھر اس آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا: تو (سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: تو ان کے بارے میں سوال مت کر کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مفہوم نہیں دیکھا (کس قدر قربت والا تھا)۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابو حاتم سہی راوی "مختلط" ہے۔

تخریج:

فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل: 1012

105. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهْرَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَرَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ عَلَيِّ، وَعَنْمَانَ؟ قَالَ: «أَمَا عَلَيِّ فَهَذَا بَيْنَهُ مِنْ خُبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ، وَأَمَا عَنْمَانُ، فَإِنَّهُ أَذَنَّ بِيَوْمِ أُحْدِيَ ذَبَابًا عَظِيمًا، فَعَفَّا اللَّهُ عَنْهُ، وَأَذَنَّ بِهِ فِي كُمْ صَغِيرًا، فَقَتَلْتُهُ مَوْهًة»

105. علاء بن عرار سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: رہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب گھروں میں سے ہے، میں ان کی غیر موجودگی میں بات نہیں کرتا اور رہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو ان سے احمد کے دن بڑی خط اسرزد ہو گئی مگر اللہ نے تو ان کو بخش دیا تھا مگر جب تمہارے متعلق ان سے چھوٹی سی بھول ہوئی تو تم نے ان کو شہید کر دیا۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

ابو حاتم سہی راوی "مس" اور "مختلط" ہے۔

106. أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْنِيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ

أَيٌ إِسْحَاقَ. عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَزَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَلَيِّ، وَعُثْمَانَ فَقَالَ: «أَمَا عَلَيِّ فَلَا تَسْلِمْنِي عَنْهُ، وَانظُرْ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنِهِ وَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ أَذْنَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا تَوَلَّ يَوْمَ التَّقْوَى الْجَمْعَانِ، فَعَفَّ اللَّهُ عَنْهُ، وَغَفَرَ لَهُ، وَأَذْنَبَ فِيهِمْ ذَنْبًا دُونَ فَقَاتِلُمُوهُ»

۱۰۶۔ علماء بن عرار سے روایت ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رض مسجد نبوی میں تشریف فرماتھے۔ میں نے ان سے سیدنا علی رض اور سیدنا عثمان رض کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: رہے سیدنا علی رض تو مجھ سے ان کے بارے میں سوال مت کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہ میں ان کے مقام کو دیکھ کر ان کے گھر کے علاوہ مسجد میں کسی کا گھر نہیں تھا اور رہے سیدنا عثمان رض تو ان سے اس دن بہت بڑی بھول ہوئی جس دن دو گروہوں کا مقابلہ (جنگ احمد) ہوا تو وہ پیچے پھر گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو اس پر معاف فرمایا اور ان کی بخشش فرمادی۔ مگر جب تمہارے درمیان ان سے چھوٹی سی بھول ہوئی تو تم نے ان کو شہید کر دیا۔

تحقیق و تخریج:

[اسناده ضعیف]

ابو اسحاق راوی "مس" ہے۔

۱۰۷۔ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَلَيِّ فَقَالَ: «لَا تَسْلِمْ عَنْ عَلَيِّ، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «فَإِنِّي أَبْغَضُهُ» قَالَ: «أَبْغَضَكَ اللَّهُ»

۱۰۸۔ سعد بن عبد الله رض سے روایت ہے کہ ایک آدمی سیدنا عبد اللہ بن عمر رض کے پاس آیا اور اس نے ان سے سیدنا علی رض کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا: مجھ سے سیدنا علی رض کے بارے

میں سوال مت کر۔ ٹو نبی کریم ﷺ کے گھروں میں سے ان کے گھر [کی قدومنزلت] کو دیکھو۔ اس آدمی نے کہا: میں تو ان سے بغض رکھتا ہوں۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا: اللہ تجھ سے بغض رکھتا ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

اس میں عطاء بن السائب "خلط" ہے۔

108۔ أَخْبَرَنِيْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَهْيرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَتَمَّ بْنَ الْعَبَّاسِ مِنْ أَيْنَ وَرَثَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: "إِنَّهُ كَانَ أَوْلَانَا بِهِ لُحْوَقًا، وَأَشَدَّنَا لَهُ لُزُومًا، خَالِفَةً زَيْدُ بْنِ أَبِي أُنْيَسَةَ فَقَالَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ فَتَمَّ"

108۔ ابو اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبدالرحمن نے قشم بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا: سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے کیسے وارث بن گئے؟ انہوں نے کہا: ہم سب سے پہلے آپ ﷺ کے ساتھ ملنے والے ہیں اور ہم سب سے بڑھ کر آپ ﷺ کا ساتھ نہ جانے والے ہیں۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

ابو اسحاق راوی "خلط" ہے۔ اس میں اور بھی علت ضعف ہے۔ متدرك حاکم (125/3) میں زہیر کی متابعت شریک بن عبد اللہ قاضی "مس" نے کی ہے۔ اسی طرح قیس بن ربع اور عمرو بن ثابت دونوں ضعیف ہیں۔ العلل و معرفة الرجال لاحمد (147/1) میں سفیان اور ابو اسحاق اسماعیل دونوں "مس" ہیں۔ بہر حال روایت ضعیف ہے۔

109۔ أَخْبَرَنِيْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي أُنْيَسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ فَتَمَّ إِنَّهُ قَبْلَ لَهُ مَا لِعَلَيْهِ وَرَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ جَدِّكَ وَهُوَ عَمُّهُ؟ قَالَ: «إِنَّ عَلِيًّا كَانَ أَوْلَانَا بِهِ

لُحْوَقًا، وَأَشَدَّنَا بِهِ لُصُوقًا»

109۔ خالد بن قحافة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا: آپ کے دادا (سیدنا عباس رضي الله عنه) کو چھوڑ کر سیدنا علی رضي الله عنه کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا گیا حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچا تھے؟۔ انہوں نے کہا: بلاشبہ سیدنا علی رضي الله عنه ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے تھے اور ہم میں سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھانے والے تھے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

ہلال بن علاء رقی راوی ضعیف ہے اور ابو اسحاق راوی "مس" اور "مختلط" ہے۔

110۔ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًّا، وَهِيَ تَقُولُ: «وَاللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيًّا أَحَبُّ إِلَيْنِكَ مِنْ أَبِي، فَأَهْوَى إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ لِيُلْطِمَهَا» فَقَالَ: يَا ابْنَةَ فُلَانَةَ «أَرَاكَ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْسَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغَضِّبًا» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةً «كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟» ثُمَّ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ اصْطَلَّخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةً فَقَالَ: «أَذْخَلَنِي فِي السِّلْمِ كَمَا أَذْخَلْتُمَانِي فِي الْحَزْبِ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ فَعَلْنَا»

110۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضي الله عنه سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضي الله عنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضي الله عنها کو بلند آواز میں بولتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھیں اللہ کی قسم! (اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے جان لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی رضي الله عنه کے ساتھ

میرے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھے اور ان کو طحانچہ مارنا چاہا اور کہا: اے فلانہ کی بیٹی! کیا میں نے تیری آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوتے ہوئے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روک دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں وہاں سے چلے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا: کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے میں نے تم کو اس آدمی سے بچالیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صلح ہو چکی تھی، [آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اندر تشریف لائے] سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی صلح میں بھی شریک کر لیں، جس طرح اپنی ناراٹگی میں شریک کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے ایسا ہی کر لیا۔“

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

اس سند میں ابو اسحاق سعینی مدرس کا واسطہ گر کیا ہے، جو کہ سنن ابو داؤد [4999] میں موجود ہے، یہ بلا شک و شبہ امر یعنی متصل الاسانید ہے، یوس بن ابی اسحاق نے عیزار بن حریث سے سماع کی تصریح نہیں کی، لہذا سند ضعیف ہے۔

تخریج:

منہ الامام احمد: 275/4؛ فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل: 39؛ منہ البر ار: 3225؛ شرح مشکل الآثار للطحاوی: 5309

سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

اسْتَغْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنِيشَ ذَاتِ السَّلَالِسِ فَأَتَيْنَاهُ "فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْنِكَ؟

فَالَّذِي قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مَنْ الْجَاهِلُ؟ قَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ فَعَدَ رَجَالًا

”نبی کریم ﷺ نے مجھے غزہ ذات سلام کے لئے امیر مقرر کیا تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سے آپ ﷺ کو سب سے زیادہ محظوظ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ، میں نے پھر پوچھا: مردوں میں سے کون ہیں؟ فرمایا: ان کے والد [سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ]۔ میں نے عرض کیا: ان کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: عمر۔ پھر ان کے بعد آپ ﷺ نے کئی اور آدمیوں کو شمار کیا۔ [کہ یعنی اس کے بعد فلاں، فلاں]۔“

[صحیح البخاری: 3662؛ صحیح مسلم: 2384؛ نضائل الصحابة للنسائي: 16]

بالفرض اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی حدیث نعمان بن بشیر اور حدیث عمرو بن العاص والی دونوں احادیث میں جمع و تطیق ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

وَنِيمِكِنُ الْجَمْعُ بِإِخْتِلَافٍ جِهَةَ الْمَحَبَّةِ : فَيَكُونُ فِي حَقٍّ أَيِّ بَخْرَ عَلَى عُمُومِهِ بِخِلَافٍ عَلَيْهِ

”محبت کے مختلف مراتب ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں جمع و تطیق کی صورت ممکن ہے۔ عمومی طور پر سیدنا علیؑ کے مقابلہ میں سیدنا ابو بکر صدیقؓ سے نبی کریم ﷺ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔“

[فتح الباری شرح صحیح البخاری: 127/17]

111- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِّي غَنِيَّةً، عَنْ أَيِّي إِسْنَاقَ، عَنْ جُمَيْعٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَمِي عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ فَذَكَرْتُ لَهَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَلَا امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ امْرَأَتِهِ»

۱۱۱۔ جمیع بن عسیر سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ امام المومنین سیدہ عائشہؓ کے پاس آیا میں اس وقت (چھوٹا) لڑکا تھا۔ میں نے ان سے سیدنا علیؓ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی ان سے بڑھ کر رسول اللہؐ کو محبوب ہوا اور کوئی عورت ان کی زوجہ محمدؐ (سیدہ فاطمہؓ) سے بڑھ کر رسول اللہؐ کو محبوب ہو۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف و منکر]

جماع بن عسیر جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

તخریج:

سنن الترمذی: 3874 و قال: "حسن غریب"، المستدرک للحاکم: 3/154 و قال: "صحیح
الاسناد" حافظہ ہی ان کا تعاقب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
"جميع متهم ولم تقل عائشة مثدا اصلاً."

"جماع بن عسیر متهم بالکذب راوی ہے، سیدہ عائشہؓ سے ایسی کوئی بات کہنا ثابت نہیں۔"

112۔ أَخْبَرَنَا عَمَرُو بْنُ عَلَيْيَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثَقَهٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ رَجَاءَ الرَّبِيعِيُّ، عَنْ أُبْيِ إِسْحَاقَ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَسْأَلُنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ عَنْ عَلَيْيَ فَقَالَتْ: «تَسْأَلُنِي عَنْ رَجُلٍ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَحَبًّا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ امْرَأَتِهِ»

۱۱۲۔ جمیع بن عسیر سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ امام المومنین سیدہ عائشہؓ کے پاس آیا میں نے اپنی والدہ کو پردے کے پیچھے سیدنا علیؓ کے بارے میں سیدہ عائشہؓ سے سوال کرتے ہوئے سنائے۔ انہوں نے فرمایا: تم اس آدمی کے بارے میں سوال کر رہی ہو کہ میں نہیں جانتی کہ ان سے بڑھ

کوئی رسول اللہ ﷺ کو محظوظ ہو اور کوئی عورت ان کی زوجہ مختارہ (سیدہ فاطمہ ؓ) سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کو محظوظ ہو۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف و منکر]

جعیں بن عییر "متهم بالکذب" راوی ہے۔

113۔ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذُّاً، عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ بُرْيَدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: «كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ فَاطِمَةُ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلَيْ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ

113۔ سیدنا عبد اللہ بن بریدہ ؓ سے روایت ہے کہ میرے باپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ ان سے سوال کیا: عورتوں میں سے کون رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ محظوظ تھی؟ انہوں نے کہا: عورتوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کو سیدہ فاطمہ ؓ محبوب تھیں اور مردوں میں سیدنا علیؑ تھے۔ امام نسائیؑ غفرماتے ہیں: اس حدیث میں ایک راوی عبد اللہ بن عطاء حدیث میں قوئی نہیں ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

عبد اللہ بن عطاء طائفی "ملس" راوی ہے، سماع کی تصریح میں نہیں مل سکی۔

تخریج:

سنن الترمذی: 3868 و قال: "حسن غريب"؛ المستدرک للحاكم: 3/155 و قال: "صحیح
الإسناد" و اوقفه الذبی

ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيٍّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عِنْدَ دُخُولِهِ وَمَسَأْلَتِهِ وَسُكُوتِهِ

نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضری، مسائل پوچھنے اور آپ ﷺ کے پاس ٹھہر نے کے اوقات میں سیدنا علیؑ کا مقام

114۔ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أَنِيسَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي رُزْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْجِيِّ، سَمِعَ عَلَيْهَا يَقُولُ: «كُنْتُ أَذْخُلُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي سَبْعَ، فَدَخَلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذْنَ لِي فَدَخَلْتُ»

115۔ عبد اللہ بن نجیؓ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا علیؓ سے سنا، وہ فرماتا ہے تھے: میں نبی کریم ﷺ کی خدمت، اقدس میں حاضر ہوا کرتا۔ اگر آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ”سبحان اللہ“ کہہ دیتے، میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، چنانچہ جب آپ ﷺ نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو مجھے اجازت دے دیتے۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ حسن]

115۔ اخْبَرَنِي زَكَرِيَاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْدَاعِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعَكْلِيِّ، عَنْ أَبِي رُزْعَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْجِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: «كَانَتْ لِي سَاعَةً مِنَ السَّحْرِ أَذْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ سَبَّعَ، فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنَهُ لِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ أَذْنَ لِي»

115۔ عبد اللہ بن نجیہ سے روایت ہے کہ سیدنا علیؑ نے بیان فرمایا: میرے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہونے کے لیے سحری کے وقت ایک ساعت مقرر تھی۔ جس میں میں نبی کریم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا کرتا۔ اگر آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ”سبحان اللہ“ کہہ دیتے، یہ الفاظ میرے لئے اجازت ہوا کرتے تھے، اگر آپ ﷺ نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو مجھے اجازت دے دیتے۔ [میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا]

تحقیق:

[اسنادہ حسن]

تخریج:

مسند الامام احمد: 1/77؛ صحیح ابن خزیمة [904]

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الْمُغَيْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اس روایت کو بیان کرنے میں مغیرہ کا (لفظی) اختلاف

116۔ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغَيْرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي رُزْعَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَجِيِّ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: «كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً مِنَ السَّحَرِ أَتَيَهُ فِيهَا، إِذَا أَتَيْنَاهُ اسْتَأْذَنْتُ، فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي سَبَّعَ، فَدَخَلْتُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغاً أَذِنْ لَيْ»

116۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ میرے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے سحری کے وقت ایک ساعت مقرر تھی۔ اس گھری میں میں نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا، جب آ کر اجازت طلب کرتا۔ اگر آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ”سبحان اللہ“ کہہ دیتے، میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اگر آپ ﷺ فارغ ہوتے تو مجھے اجازت دے دیتے، [تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔]

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ حسن]

117۔ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الْمُغَيْرَةِ،

عَنِ الْحَارِثِ الْعَكْلِيِّ، عَنْ ابْنِ نَجِيِّ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: «كَانَ لِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْخَلٌ مَذْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَذْخَلٌ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنْحَنَّ لِي» . خَالِفُهُ شُرَحِبِيلُ بْنُ مُذْرِكٍ فِي إِسْنَادِهِ وَوَافَقَهُ عَلَى قَوْلِهِ «تَنْحَنَّ» .

۱۱۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ میرے لئے نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے دو وقت مقرر تھے۔ ایک رات کا دوسرا دن کا۔ جب میں رات کو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ ﷺ میرے لیے کھکارتے۔

امام نسائیؓ فرماتے ہیں: شرحیل بن مدرک نے اس سند میں مخالفت کی ہے، البتہ اس نے لفظ ”تَنْحَنَّ“ (کھکarna) میں موافقت کی ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد حسن]

۱۱۸۔ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاً بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحِبِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُذْرِكَ الْجُعْفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَجِيِّ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَةٍ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ، فَكُنْتُ أَتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُولُ لَهُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَإِنْ تَنْحَنَّ أَنْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي، وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ»

۱۱۸۔ عبد اللہ بن نجی حضریؓ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں جو سیدنا علیؑ کی طبقیؓ کو طہارت (وضو وغیرہ) کروانے والے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علیؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے نزدیک میرا ایک ایسا مقام تھا جو مغلوق خدا میں کسی کو حاصل نہ تھا۔ میں روزانہ سحری کے وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا: السلام عليك يا نبی اللہ (اے اللہ کے نبی ﷺ آپ پر سلام ہو) اگر آپ ﷺ کھکارتے تو میں واپس گھر لوٹ جاتا اگر ایسا نہ کرتے تو میں اندر چلا جاتا۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

مسند الامام احمد: 85/1؛ صحیح ابن خزیمہ [902]

119۔ اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُسَاوِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ هِنْدِ الْجَمْلِيِّ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: «كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي، وَإِذَا سَكَتَ ابْنَدَأْنِي»

119۔ سیدنا علی الرضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کرتا، تو آپ علیہ السلام عطا فرماتے، جب میں خاموش ہوتا تو آپ علیہ السلام خود ہی (عطافمانے کے لیے) ابتداء فرماتے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف والحدیث صحیح]

عبداللہ بن عمر بن ہند کا سیدنا علیہ السلام سے سامع ثابت نہیں ہے۔

تخریج:

مصنف ابن الہیثہ: 12/59؛ سنن الترمذی: 3722 و قال حسن غریب؛ المحدث رک للحاکم: 3/125؛ صحیح علی شرط اشیخین واقرہ الذہبی

120۔ اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْرِيِّ، عَنْ عَلَيْهِ قَالَ: «كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أَعْطِيْتُ، وَإِذَا سَكَتَ ابْنَدَأْنِي»

120۔ سیدنا علی الرضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کرتا، تو آپ علیہ السلام عطا فرماتے اور جب میں خاموش ہوتا تو مجھے (بغیر سوال کیے) عطا کیا جاتا۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

یہ روایت بھی انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ ابو بخری کا سیدنا علیؑ سے سامع ثابت نہیں ہے اور اعشش مدرس ہیں، سامع کی تصریح ثابت نہیں۔

تخریج:

مصنف ابن ابی شہیۃ: 12/58؛ کتاب المعرفۃ والتأریخ للفسوی: 2/540؛ حلیۃ الاولیاء

لابی نعیم الاصبهانی: 1/68

۱۲۱۔ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرْنَجَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَزِيبٍ، عَنْ أُبْيِ الْأَسْوَدِ، وَرَجُلٌ آخَرُ، عَنْ زَادَانَ قَالَا: قَالَ عَلَيْهِ: «كُنْتُ وَاللَّهُ إِذَا سَأَلْتُ أَغْطِيَتُ، وَإِذَا سَكَتُ ابْتُدَيْتُ»

قالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ جُرْنَجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِنِ حَزِيبٍ

۱۲۱۔ زادان سے روایت ہے کہ سیدنا علیؑ نے فرمایا: [میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر یہ احسان ہے] کہ جب بھی میں آپ ﷺ سے کسی چیز کا سوال کرتا، وہ مجھے مغل جاتا ہے اور جب میں خاموش ہوتا تو آپ ﷺ خود ہی [بغیر سوال کیے] مجھے عطا فرمادیتے۔ امام سنائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ابن جریح کا ابو حرب سے سامع نہیں ہے۔

تحقیق:

[اسناد صحیح]

تخریج:

رواہ مفتاح الصحابة لاحمد للقطبي: 1099

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلَيْيُ مِنْ صُعُودِهِ عَلَى مَنْكِبَيِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیدنا علیؑ کی اس خاص فضیلت کا بیان:

”نبی کریم ﷺ نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کیا،“

122- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَزْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ نُعْيِنِ بْنِ حَكِيمٍ الْمَدْائِنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ: «أَنْطَلَقْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ، فَصَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبَيِّ، فَهَضَرَ بِهِ عَلَيْهِ» فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْفَتْهُ قَالَ لَهُ: «اجْلِسْ، فَجَلَسَ فَتَرَزَّلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ: «اصْنَعْدُ عَلَى مَنْكِبَيِّ» فَهَضَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ: «إِنَّهُ لِيَخِيلُ إِلَيَّ أَنِّي لَوْ شِئْتُ لَنْلَمْ أَفْقَ السَّمَاءَ، فَصَعَدَ عَلَيْهِ الْكَعْبَةَ وَعَنِيهَا تَمَالَ مِنْ صُفْرٍ أَوْ نُحَاسٍ، فَجَعَلْتُ أَعْالِجَهُ لَأَرِلَهُ يَمِينًا وَشِمَاءً، وَقُدَّامًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، حَتَّى إِذَا اسْتَثْكِنْتُ مِنْهُ» قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْدِفْهُ» فَقَدَفْتُ بِهِ، فَكَسَرَهُ كَمَا نُكَسَرُ الْقَوَارِبُ، ثُمَّ نَزَّلْتُ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْبِيقًا حَتَّى تَوَارَنَا بِالْبُيُوتِ خَشِيَّةً أَنْ يَلْقَانَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

۱۲۲۔ سیدنا علی المرتضی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نکلا یہاں تک کہ ہم خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ ﷺ میرے کندھوں پر سور ہوئے، میں نے کھڑا ہونا چاہا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے کمزور پایا پھر فرمایا: بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، نبی کریم ﷺ (میرے کندھوں سے) نیچا اتر آئے تو فرمایا: میرے کندھوں پر سور ہو جاؤ پس رسول اللہ ﷺ نے کھڑا ہونا چاہا تو سیدنا علی علیہ السلام کہتے ہیں: مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں چاہوں تو آسمان کے کناروں تک پہنچ جاؤں گا۔ پس میں خانہ کعبہ پر چڑھا، اس میں بیتل اور تانے کی مورتیاں تھیں۔ میں ان کو اکھاڑنے لگا تاکہ ان کو دانیں باسیں، آمنے سامنے اور پیچھے سے ہٹا دوں۔ جب میں ان کے اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: انہیں پھینک دو، میں نے ان کو پھینک دیا تو وہ اس طرح ٹوٹ گئے جس طرح شیشہ ٹوٹتا ہے پھر میں اتر آیا اور وہاں سے میں اور رسول اللہ ﷺ جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں کو واپس پلٹ آئے، اس خدشہ کے پیش نظر کہ انہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی سے ہماری ملاقات ہو جائے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد حسن]

سنن الامام احمد: 1/84؛ زوائد سنن الامام احمد: 151/1؛ تهذیب الآثار للطبری؛ ص: 237؛

سنن علی۔ المستدرک للبخاری: 2/367. 262 و قال صحيح الاسناد۔

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلَيْيِ دُونَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ مِنْ

فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِضُعْهُ

مِنْهُ، وَسَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرِيمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

سیدنا علی الرضا رض کی تمام اولین و آخرین میں اس خاص فضیلت کا بیان:

”ان کے لیے نبی کریم ﷺ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ ؑ کا انتخاب ہوا

جو کہ سیدہ مریم بنت عمران ؑ کے علاوہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں“

123 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرْيَثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُزَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَاطِمَةَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَ عَلَيْ فَرَزَوْجَهَا مِنْهُ

123 - سیدنا بریدہ ؓ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ؓ نبی کریم ﷺ کے پاس سیدہ
فاطمہ ؑ سے نکاح کا پیغام لے کر گئے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وہ ابھی چھوٹی ہے۔ ان کے بعد سیدنا
علی ؓ نے پیغام بھیجا تو ان سے نکاح کر دیا۔

تحقیق:

[استاده صحیح]

تخریج:

سنن النسائي: 3221؛ زوائد فضائل الصحابة للقطبي: 1051؛ المستدرک للحاکم: 167/2؛ وصحیح على شرط الشعین ووافقه الذهبی وصحیح ابن حبان [6948]

124- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ وَزْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ السِّجْتَيَانِيُّ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدْنِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْنِيْ قَالَتْ: «كُنْتُ فِي زِفَافٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ الْبَابَ، فَفَتَحَتْ لَهُ أُمُّ أَيْمَنَ الْبَابَ» فَقَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ اذْعِنْ لِي أَخِي». قَالَتْ: هُوَ أَخُوكَ وَتُنْكِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَا أُمَّ أَيْمَنَ، وَسَمِعْنَ النِّسَاءَ صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّيْنَ» قَالَتْ: «وَاخْتَبَأْتُ أَنَا فِي نَاحِيَةٍ» قَالَتْ: فَجَاءَ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَضَحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْعُوا لِي فَاطِمَةَ» فَجَاءَتْ خَرْقَةً مِنَ الْحَيَاءِ فَقَالَ لَهَا: «فَذِي يَغْنِي أَنْكُحْنُكَ أَحَبَّ أَهْلِ بَيْتِي إِلَيْهِ، وَدَعَا لَهَا، وَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى سَوَادًا» فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: أَسْمَاءَ قَالَ: ابْنَةُ عُمَيْنِيْ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «كُنْتِ فِي زِفَافٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكِرِمِينَهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: «فَدَعَا لِي». خَالِفَةُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَبَةَ، فَرَوَاهُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

125- سیدہ اسماء بنت عمیں شعبانی سے روایت ہے کہ میں سیدہ فاطمہ شعبانی کی زفاف والی رات ان کے ہاں تھیں، جب صحیح ہوئی رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی۔ سیدہ ام ایمن شعبانی نے آپ ﷺ کے لئے دروازہ کھولا تو فرمایا: اے ام ایمن میرے بھائی کو میرے پاس بلاو انہوں نے

عرض کیا: کیا وہ آپ کے بھائی ہیں، حالانکہ آپ ﷺ نے ان کو [بیٹی کا] رشتہ دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں اے ام ایکن۔ وہاں موجود دوسری عورتوں نے جب نبی کریم ﷺ کی آواز سنی تو وہ چھپ گئیں۔ سیدہ اسماء بنت عمیسؓ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی ایک کونے میں چھپ گئی، اتنے میں سیدنا علیؑ آئے، نبی کریم ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور پانی منگوا کر اسے سیدنا علیؑ پر چھڑ کا۔ پھر فرمایا: فاطمہ کو میرے پاس بلا وہ بڑی ہی شرم سے آئیں اور فرمایا: اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان کے اس شخص سے کیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محظوظ ہے، پھر ان کے لئے دعا فرمائی، ان پر بھی پانی چھڑ کا، پھر رسول اللہ ﷺ واپس پلنے لگتے تو اپنے سامنے کچھ سیاہی دیکھی [کیونکہ نماز فجر سے پہلے اندر ہیرے کا وقت تھا]، فرمایا: کون ہے؟ میں نے عرض کیا: میں، فرمایا: کیا اسماء ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، فرمایا: کیا اسماء بنت عمیس؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تم رسول اللہ کی بیٹی کے زفاف کے احترام کیلئے آئی ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ ﷺ۔ پھر آپ ﷺ نے میرے لئے دعا فرمائی۔

امام نسائیؓ فرماتے ہیں: اس روایت کی سند کو بیان کرنے میں سعید بن ابی عروبة نے اختلاف کیا ہے، وہ یوں بیان کرتے ہیں: عن ایوب، عن عکرمة، عن ابن عباس۔

تحقیق:

[شاذ]

اس روایت کی سند کے راوی تولقد ہیں لیکن سیدہ اسماء بنت عمیسؓ کا سیدہ فاطمہؓ کے نکاح کے وقت مدینہ منورہ میں ہونا ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت سیدنا جعفرؑ کے ساتھ بھرت کی غرض سے جب شہ گئی ہوئی تھیں، بھرت کے ساتوں سال مدینہ منورہ تشریف لائیں، جیسا حافظ ذہبیؓ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولكن الحديث غلط لأن اسماء كانت ليلة زفاف فاطمة

بالحبشة

”مگر اس روایت میں غلطی ہے کیونکہ سیدہ فاطمہ رض کی شب زفاف سیدہ اسماء بنت عمیس رض توجہ شدہ میں تھیں۔“

(تلخیص المُسْتَدِرِك: 159/3)

تختزنج:

المجمُوعُ الْكَبِيرُ لِلْطَّبَرَانِيِّ: 137/24؛ زوائد فضائل الصحابة للقطبي: 1342؛ المُسْتَدِرِكُ للحاكم: 159/3.

125. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدُّرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَهْبَلُ
بْنُ حَلَادِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرْوَةَ، عَنْ
أَيُوبَ السِّخْتِيَّانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا رَأَوْجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاطِمَةَ مِنْ عَلَيِّ كَانَ فِيمَا أَهْدَى مَعَهَا سَرِيرًا مَشْرُوطًا، وَوِسَادَةً مِنْ
أَذْمَ حَشُوْهَا لِيفٌ، وَقِرْنَةٌ» قَالَ: وَجَاءُوا بِبَطْحَاءِ الرَّمْلِ فَبَسَطُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ وَقَالَ
لِعَلَيِّ: «إِذَا أَتَيْتَ هَمَّا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى آتِيَكَ» فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَدَقَّ الْبَابَ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا: «نَمْ أَخِي؟» فَقَالَتْ: وَكَيْفَ يَكُونُ
أَخَاكَ وَقَدْ رَوَجْتُهُ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: «فَإِنَّهُ أَخِي» قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: «جِئْتَ
تُكْرِمِنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَدَعَاهَا، وَقَالَ لَهَا: «خَيْرًا» قَالَ ثُمَّ
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَكَانَ الْهَوْدُ يُؤْخِذُونَ الرَّجُلَ عَنِ
امْرَأَتِهِ إِذَا دَخَلَ هَمَّا» قَالَ: "فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَفَرِّيْ
مِنْ مَاءِ، فَتَفَلَّ فِيهِ، وَعَوَّذَ فِيهِ، ثُمَّ دَعَاهَا فَرَشَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ،
وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهَا قَاطِمَةَ، فَأَقْبَلَتْ تَعْثَرُ فِي حَيَاةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَفَعَلَ هَمَّا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَهَا: «إِنِّي وَاللَّهِ، مَا آلَوْتُ أَنْ أُرْوِجَكِ خَيْرَ أَهْلِي،

ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ»

۱۲۵۔ سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے سیدہ فاطمہؓ کو سیدنا علیؓ کے ساتھ رخصت کیا تو اس وقت ان کے پاس ایک بُنیٰ ہوئی چار پائی، ایک تکیہ جو کہ کھجور کی کھال سے بھرا ہوا تھا اور ایک مشکیزہ عطا فرمایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے بیان کرتے ہیں کہ بظاء نامی جگہ سے ریت لا کر سیدنا علیؓ کے گھر میں بچھائی گئی تو آپ ﷺ نے سیدنا علیؓ کو فرمایا: اس وقت تک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہ جانا جب تک میں نہیں آ جاتا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی۔ سیدہ ام ایکنؓ نے آپ کے لئے دروازہ کھولा تو فرمایا: اے ام ایکن میرے بھائی کو میرے پاس بلا، انہوں نے عرض کیا: کیا وہ آپ کے بھائی ہیں، حالانکہ آپ ﷺ نے ان کو بیٹی کا رشتہ دیا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ وہ میرا بھائی ہے۔ پھر ام ایکن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تم رسول اللہ ﷺ کی صاحزادی کی تکریم کے لئے آئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی، [رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی پھر بنی کریم ﷺ کو گھر تشریف لائے، حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے بیان کرتے ہیں کہ ابی یہود آدمی کو] اپنی کسی رسم کے طور پر [عورتوں کے پاس آنے سے روکتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے پانی کا ایک چھونا "کثورا" مغلوبیا پھر اس میں کچھ پڑھ کر سیدنا علیؓ کے چہرے، سینے اور بازوؤں پر چھپز کا۔ پھر سیدہ فاطمہؓ کو بلا یا وہ بڑی شرم کے باعث اپنے ہی کپڑوں میں لڑکھزار ہی تھیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا] یعنی جو سیدنا علیؓ کے ساتھ کیا تھا] پھر ان کو فرمایا: اللہ کی قسم اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر شخص سے کیا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور تشریف لے گئے۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

سعید بن ابی عربہ بر اوی "ملس" اور "مختلط" ہے، سماع کی تصریح نہیں کی۔ محمد بن سواء ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان سے اختلاط کے بعد سماع کیا ہے۔

(الکواكب الیبرات، ص: 111، 112)

سہیل بن خلاد عبدی راوی ”محبول“ ہے۔

126۔ اخْبَرَنِي عَمْرَانُ بْنُ بَكَارِ بْنِ زَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي تَحِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، ذَكَرَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: «وَاللَّهِ لَأَنْ تَكُونَ لِي إِحْدَى حِلَالِهِ الْتَّلَاثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَأَنَّ يَكُونَ» قَالَ لِي مَا قَالَ لَهُ حِينَ رَدَّهُ مِنْ بَيْوَكَ: «أَمَا تَرَضِي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَتْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا تَرِيَ بَعْدِي؟» أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلَأَنْ يَكُونَ قَالَ لِي مَا قَالَ فِي يَوْمِ حَيَّبَرٍ: «لِأَغْطِيَنَ الرَّاهِيَّةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِيهِ، لَيْسَ بِفَرَارٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلَأَنْ أَكُونَ كُنْتُ صِهْرَهُ عَلَى ابْنَتِهِ لِي مِنْهَا مِنَ الْوَلَدِ مَا لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»

۱۲۶۔ ابو نجح سے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ علیہ السلام نے سیدنا علی علیہ السلام کا ذکر کیا تو سیدنا سعد بن ابی وقار علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے ان تین فضیلتوں میں سے ایک کا بھی مل جانا ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے (فضیلتیں سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کے حصے میں آئیں)۔

۱۔ اگر یہ فضیلت میرے لیے ہوئی جو کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ توبک کے موقع پر سیدنا علی علیہ السلام کو چھوڑتے وقت فرمایا تھا: کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کو ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ فضیلت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔

۲۔ اسی طرح کاش آپ علیہ السلام نے میرے لیے فرمایا ہوتا جو آپ علیہ السلام نے خبر کے دن (سیدنا علی علیہ السلام کے لیے) فرمایا تھا: کل میں اس شخص کو جہنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر فتح دے گا اور وہ بھاگنے والے نہیں ہے۔ یہ فضیلت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔

۳۔ اگر میرے لیے یہ ہوتا کہ میں نبی کریم ﷺ کا داماد ہوتا، آپ ﷺ کی لخت جگہ میرے نکاح میں آتیں اور ان سے میری اولاد ہوتی یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

محمد بن اسحاق اور عبداللہ بن ابی شحیح دونوں مدرس ہیں، اسی طرح یہ روایت منقطع بھی ہے، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ابو شحیح کی سیدنا سعد رض سے روایت مرسل ہوتی ہے۔“

[الجرح والتعديل: 9/306]

તخریج:

آخرة ابو زرعة الدمشقي كما في البداية والنهاية لابن كثير: 7/341

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُاثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرِيمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

ان احادیث کا بیان کہ (جن میں مذکور ہے) رسول اللہ ﷺ کی

صاحبزادی سیدہ فاطمہ ؓ سیدہ مریم بنت عمران ؓ کے علاوہ تمام

جنتی عورتوں کی سردار ہیں

127۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَأَكْبَثَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَهَا، فَبَكَثَتْ، ثُمَّ أَكْبَثَتْ عَلَيْهِ، فَسَارَهَا، فَضَحِّكَتْ، فَلَمَّا تُوقَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا فَقَالَتْ: «مَا أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ أَخْبَرْنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِّنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ». فَبَكَثَتْ، ثُمَّ أَكْبَبْتَهُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَسْرَعُ أَهْلَ بَيْتِيِّ بِهِ لُحُوقًا، وَأَنَّ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرِيمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَضَحِّكَتْ»

۷۔ سیدہ عائشہ ؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو سیدہ فاطمہ ؓ کا تشریف

لامکیں۔ نبی کریم ﷺ پر آکر جھک گئیں، آپ ﷺ نے ان سے کچھ سرگوشی فرمائی تو وہ روپڑیں۔ پھر آپ ﷺ پر جھک گئیں، آپ ﷺ نے کوئی سرگوشی فرمائی تو وہ مکراپڑیں جب نبی کریم ﷺ دنیاۓ فانی سے رخصت ہو گئے، میں نے اس کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا: جب میں (پہلی مرتبہ) آپ ﷺ پر جھکی، آپ ﷺ نے مجھے بتایا کہ میں اس بیماری میں دنیاۓ فانی سے رخصت ہو جاؤں گا، تو میں روپڑی پھر جب میں (دوسرا مرتبہ) جھکی، آپ ﷺ نے مجھے بتایا: میرے ابلی بیت میں سے تم جلدی مجھ سے ملاقات کر لوگی اور یہ کہ میں (سیدہ فاطمہ ؓ) مریم بنت عمران کے علاوہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں۔ میں نے اپنے سرکواٹھا یا تو مکراپڑی۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

مصنف ابن الی شیبۃ: 126/12؛ المجمع الكبير للطبرانی: 419/22

128- أَخْبَرَنِي ِهَلَالُ بْنُ ِبْشِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُونِي بْنُ يَغْفُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي هَاشِمٌ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَعَا فَاطِمَةَ، فَتَاجَاهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِّيَّكَتْ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «فَلَمَّا تُؤْتَيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْهَا عَنْ بُكَائِهَا، وَضَحِّيَّكَهَا» فَقَالَتْ: «أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرِيمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَضَحِّيَّكَتْ»

۱۲۸- سیدہ ام سلمہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدہ فاطمہ ؓ کو بلایا، ان سے کوئی سرگوشی کی تو وہ روپڑیں پھر ان سے کوئی بات کی تو وہ مکراپڑیں، سیدہ ام سلمہ ؓ فرماتی ہیں: جب نبی

کریم ﷺ دنیاے فانی سے رخصت ہو گئے تو میں نے ان سے رونے اور مسکرانے کے بارے میں سوال کیا: انہوں نے کہا: جب (پہلی مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے مجھے بتایا کہ وہ جہان فانی سے رخصت ہو جائیں گے [تو میں روپڑی] پھر رسول اللہ ﷺ نے مجھے بتایا: بلاشبہ میں مریم بنت عمران کے علاوہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں تو میں مسکرا پڑی۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

سنن الترمذی: 3873 و قال "حسن غریب"، الطبقات لابن سعد: 8/248

129 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لُغْمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ»

129 - سیدنا ابوسعید دیوثیوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور مریم بنت عمران کے علاوہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

یزید بن ابی زیاد کوفی راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

تخریج:

مند الامام احمد: 3/64, 80؛ سنن الترمذی: 3768 و قال "حسن صحیح"

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

ان احادیث کا بیان کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی

سیدہ فاطمہ ؓ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں

130۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّبِيعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا يَوْمًا صَدْرَ الْمَهَارِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَالَ لَهُ فَائِلُنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَقَّ عَلَيْنَا، لَمْ تَرَكْ الْيَوْمَ قَالَ: «إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ رَأَيْ، فَاسْتَأْذِنْ اللَّهَ فِي زِيَارَتِي، فَأَخْبَرَنِي أَوْ بَشَّرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَتِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أُمَّتِي، وَأَنَّ حَسَنَتِنَا وَحُسْنِيَّنَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

130۔ سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن بوقت صبح ہمارے پاس تشریف لانے میں رسول اللہ ﷺ نے دیر کی جب شام کا وقت ہوا تو ہم میں سے ایک کہنے والے نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ بلاشبہ ہم پر (آپ ﷺ کا دیر سے تشریف لانا) بہت گرا گرا ہے، آج ہم آپ ﷺ کی زیارت نہیں کر سکے، آپ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ آسمان سے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی

تھی، اس نے اللہ سے میری زیارت کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ اس نے مجھے بتایا اور بشارت دی ہے کہ میری صاحبزادی فاطمہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابو جعفر محمد بن مروان ذہلی راوی ”مجہول الحال“ ہے، سوائے امام ابن حبان رض (الثقات: 5/373) کے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔ حافظ ذہبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

”لایکاڈ یعرف“

”مجہول راوی ہے۔“

(میزان الاعتدال: 4/33؛ ت: 8157)

الجمع الکبیر للطبرانی (3/26) میں اس کی متابعت حبیب بن ابی ثابت نے کرکھی ہے یہ سند سخت ترین ”ضعیف“ ہے۔ اس میں سیف بن محمد ابن اخث ثوری راوی ”کذاب“ ہے۔

تخریج:

التاریخ الکبیر للبخاری: 1/232؛ اجمع الکبیر للطبرانی: 2/26، 403/22

فائدہ:

سیدنا حذیفہ بن بیمان رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
إِنَّ فَاطِمَةَ مُتَيَّدَةً نِسَاءً أَهْلِ الْجَنَّةِ
”بلاشبہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔“

(مسند الامام احمد: 5/391، سنن الترمذی: 3781، وقال ”حسن غریب“، صحیح ابن حبان: 6960)

131- أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ ذَكْرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّفَعِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ كَانَ مِشِيهَا مِشِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِإِيمَنِي، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ أَسْرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَبَكَتْ» فَقُلْتُ لَهَا: «اسْتَخَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ وَتَبَكِّينَ؟، ثُمَّ إِنَّهُ أَسْرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَضَحِّكَتْ» فَقُلْتُ لَهَا: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ خَزْنِ وَسَالَتْهَا عَمَّا قَالَ: فَقَالَتْ: «مَا كُنْتُ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا فُبِضَ سَالَتْهَا» فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَسْرَ إِلَيَّ فَقَالَ: «إِنَّ جِبِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارِضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَاني إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجْلِي، وَإِنَّكَ أَوْلَ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي، وَنَعْمَ السَّلْفُ أَنَا لَكَ» قَالَتْ: فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟» قَالَتْ: «فَضَحِّكَتْ»

132- سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سیدہ فاطمہؓ آئیں۔ ان کا چنان رسول اللہ ﷺ کے مشابہہ تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے میری بیٹی خوش آمدید اور اپنے داکیں یا باکیں طرف بھایا، پھر ان سے کچھ راز کی بات کہی تو وہ رونے لگیں، میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے تمہیں ہمارے درمیان راز کی بات کرنے کے لئے منتخب کیا ہے اور تم رورہی ہو؟ پھر دوسری بات کہی تو وہ خوش ہو گئیں، بعد میں میں نے پوچھا: آج کی طرح میں نے خوش وغم کے قریب نہیں دیکھا، میں نے ان سے [اس بات کے متعلق] پوچھا، جو نبی کریم ﷺ نے ان کو فرمائی تھی، تو وہ کہنے لگیں: میں رسول اللہ ﷺ کے راز کی بات ظاہر نہیں کر سکتی، جب رسول اللہ ﷺ جہاں فانی سے رخصت ہو گئے، میں نے دوبارہ پوچھا تو بتانے لگیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا: میں جبراہیل کو برسال ایک دفعہ قرآن سناتا تھا مگر اس سال دو مرتبہ سنایا ہے، یوں بتاہے کہ میرا مقررہ وقت آگیا ہے، بالاشتم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، میں تیرے لئے تیرا بھریں سلف: ہوں، میں روپڑی، پھر مجھ سے فرمایا: کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی تمام عورتوں یا تمام مومنہ عورتوں سے بھتر ہو تو میں بنس پڑی۔

تحقیق:

[اسناد صحیح]

خرچ:

صحیح مسلم: 2450

132- أخبرتنا محمد بن مغمر قال: حَدَثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّعْفَيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا مَا تُعَادِرُ مِنْهَا وَاحِدَةً، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْضِي، وَلَا وَاللَّهِ إِنْ تُخْطِلْ مِشِيَّهَا مِشِيَّهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْهَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِإِبْنِيَّتِي، فَأَقْعُدَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ بَكَاءً شَدِيدًا، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَصَحَّحَكُثْ» فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهَا: «خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ بَيْنِنَا بِالسِّرَارِ، وَأَنْتِ تَبْكِينَ» أَخْبَرَنِي مَا قَالَ لِكِ؟ قَالَتْ: «مَا كُنْتُ لِأُفْتَحِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ، فَلَئِنْ تُؤْفِيَ» قُلْتُ لَهَا: «أَسْأَلُكِ بِالذِّي لَيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ مَا الْذِي سَارَكِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَتْ: «أَمَّا الْآنَ، فَتَعَمَّ، سَارَنِي أَمَّا مَرْثَنَةُ الْأُولَى» فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مُرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ افْتَرَبَ، فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي» ثُمَّ قَالَ: يَا فَاطِمَةُ «أَمَّا تَرْضَيْنِي أَنِّي سَيِّدَهُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، أَوْ سَيِّدَهُ نِسَاءُ الْعَالَمَيْنِ؟» فَصَحَّحَكُثْ

132- سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہم سب [ازدواج مطہرات] موجود تھیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ پڑی [یعنی سب حاضر ہو گئیں] تو سیدہ فاطمہؓ پریشان چلتی ہوئی آئیں۔ اللہ کی قسم ان کا چنان رسول اللہ ﷺ کے چلنے سے جدائیں تھا، [یعنی مشابہت رکھتا تھا] یہاں تک کہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے

میری بیٹی خوش آمدید اور اپنے دائیں یا باسیں طرف بھایا، پھر ان سے کچھ سرگوشی کی تو وہ بڑی شدت سے رو نے لگیں پھر دوسری کسی بات کی سرگوشی کی تو وہ خوش ہوئیں، جب رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے، میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے تمہیں ہمارے درمیان راز کی بات کرنے کے لئے منتخب کیا ہے اور تم رورہی ہو؟ مجھے بتاؤ، رسول اللہ ﷺ نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟، کہنے لگیں: میں یہ راز کی بات ظاہر نہیں کر سکتی، جب رسول اللہ ﷺ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں نے ان سے دوبارہ پوچھا: میں اس حق کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتی ہوں، جو میرا آپ پر ہے، رسول اللہ ﷺ نے آپ کے ساتھ کیا سرگوشی فرمائی تھی؟ تب وہ کہنے لگیں: ہاں اب میں بتلاتی ہوں، پہلی مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا تھا: میں ہر سال جبرائیل کے ساتھ ایک دفعہ قرآن کا ذور کرتا ہوں، مگر اس سال دو مرتبہ ذور کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ میرا مقررہ وقت قریب آپ ہنچا ہے، پس تم تقویٰ پر قائم رہنا اور صبر کرنا، مزید فرمایا: اے فاطمہ! کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے، کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا: تم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو تو میں بنس پڑی۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 6285؛ صحیح مسلم: 2450

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان احادیث کا بیان:

”سیدہ فاطمہؓ نبی کریم ﷺ کے جسدِ اقدس کا مکملرا ہیں،“

133۔ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْيَنْثِ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ الْمُسَوْرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْتَرِ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي هِشَامَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوهُ ابْنَتَهُمْ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذِنَ لَمْ لَا آذِنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلِقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بِضْعَةٌ مِنَ يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا»

۱۳۳۔ سیدنا مسیح بن مخرمؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ سے کہ نبی ہشام نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کرائیں مگر میں کبھی کبھی اجازت نہیں دیتا، پھر فرمایا: میں کبھی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ سو اس کے کہ میری لخت جگر کو علی طلاق دینا چاہتے ہیں اور اس کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ فاطمہؓ میرا جگر گوشہ ہے، مجھے وہ چیز ہے جیسی کہ جس کرتی ہے، جو اسے بے چیز کرتی ہے۔ مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اس کو تکلیف دیتی ہے۔

تحقیق و تحریج:

صحیح البخاری: 3767؛ صحیح مسلم: 2449

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

اس روایت کو بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی) اختلاف

134۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيرِيِّ قَالَ: حَدَّنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلِينَكَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمَسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ يَخْطُبُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بَنِي هِشَامٍ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلَيْهَا، وَإِنِّي لَا آذُنُ، ثُمَّ لَا آذُنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُفَارِقَ ابْنَتِي، وَأَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مُضْغَةً أَوْ بِضْعَةً مِنِي يُؤْذِنِي مَا آذَاهَا وَيُرِينِي مَا أَرَاهَا، وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَجْمِعَ بَيْنَ يُنْثِي عَدُوَّ اللَّهِ، وَبَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

133۔ سیدنا مسیح بن محررؓ سے روایت ہے کہ میں نے نار رسول اللہ ﷺ مکہ المکرہ کے منبر پر خطبہ ارشاد فرمائی تھی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ بنوہشام نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں، بلاشبہ میں اجازت نہیں دیتا، میں قطعاً اجازت نہیں دیتا مگر ایسی صورت میں کہ ابن ابی طالب میری بیٹی سے علیحدگی اختیار کرے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرے پھر فرمایا: فاطمہ میرا جگرگوش ہے وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا جو اسے تکلیف پہنچائے گا اور وہ مجھے بے قرار کرے گا جو اسے بے قرار کرے گا۔ ابن ابی طالب کے لیے یہ (جاز) نہیں کہ وہ عدو اللہ (الله کے دشمن) کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی کو ایک ساتھ جمع کرے۔

تحقیق و تخریج

135۔ الحارث بن مسکین، قراءة عليه وانا اسمع عن سفيان، عن عمرو، عن ابن أبي شيبة، عن المسور بن محرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن فاطنة مضفة مي، من أغضبها أغضبني»

135۔ سیدنا سور بن مخرمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: فاطمہ میرا جگر گوشہ، جس نے اسے غصب ناک کیا اس نے مجھے غصب ناک کیا۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 3767؛ صحیح مسلم: 2449

136۔ أخبرنا محمد بن خالد بن خليه قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري قال: أخبرني علي بن حسين، أن المسور بن محرمة، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن فاطمة مضفة مي»

136۔ سیدنا سور بن مخرمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ فاطمہ میرا جگر گوشہ۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 3729؛ صحیح مسلم: 2449

137۔ أخبرني عبيدة الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن حخلة، أنه حدثه أن ابن شهاب، حدثه أن علي بن حسين، حدثه أن المسور بن محرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره هذا، وأنا يوفيني مختلماً فقال: «إن فاطمة مي»

137۔ سیدنا سور بن مخرمہؓ سے روایت ہے کہ میں نے نارسول اللہ ﷺ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرم رہے تھے، میں اس وقت سمجھ یو جھر کھنے والا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ فاطمہ مجھ سے ہے۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 3110؛ صحیح مسلم: 2449

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
ابْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْحَانَتَيْهِ مِنَ
الدُّنْيَا، وَأَنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اس خاص فضیلت کا بیان:

”سیدنا حسن اور حسین بن پیغمبر ﷺ کے نواسے، دنیا میں
رسول اللہ ﷺ کے پھول اور عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا صلی اللہ علیہ وسلم
کے علاوہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں“

138۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ بَكَارٍ الْحَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُسَيْطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلَيُّ فَخَتَنِي، وَأَبُو وَلَدِي، وَأَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ»

138۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے علی! تم میرے
داما دھو، اور میری اولاد کے باپ ہو۔ تم مجھ سے ہوا اور میں تم سے ہوں۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

محمد بن اسحاق ملس ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخریج:

مسند الامام احمد: 204/5؛ ^لمجمع الکبیر للطبرانی: 123/1؛ تاریخ بغداد للخظیب: 62/9

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ ابْنَاهِي»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”حسن اور حسین میرے نواسے ہیں“

139۔ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاً بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى وَهُوَ ابْنُ يَعْفُوَ الرَّمْعَيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ الْمَهَاجِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي سَهْلِ التَّبَّالُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسْنُ بْنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: طَرَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً لِبعضِ الْحَاجَةِ، فَخَرَجَ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى سَيِّئَةٍ لَا أَذْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: «مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ فَكَسَفَ، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ عَلَى وَرِكَنِيهِ» فَقَالَ: «هَذَا ابْنَايَ وَابْنَايَ ابْنَتِي، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيِّ أَجِئْهُمَا، فَأَجِئْهُمَا، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيِّ أَجِئْهُمَا فَأَجِئْهُمَا»

139۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کسی ضرورت کے تحت میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی کریم ﷺ باہر تشریف لائے تو آپ ﷺ کسی چیز کو چھپائے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی؟ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا: آپ ﷺ نے یہ کیا چیز چھپا رکھی ہے؟ آپ ﷺ نے کپڑا ہٹایا تو آپ ﷺ کے دونوں کولہوں پر سیدنا حسن اور

سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں میرے نواسے ہیں اور میرے بیٹی کے صاحبزادے ہیں، اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

سنن الترمذی: 3769 و قال ”حسن غریب“؛ صحیح ابن حبان: [6967] یوں سب راویوں کی
ضمی توثیق ہو جائے گی۔

ذکر الآثار المأثورة بآن الحسن والحسين سیدا شباب اهل الجنة

نبی کریم ﷺ کی ان احادیث کا بیان:

”سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں،“

140۔ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْنَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لُغْمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحَسَنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

140۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

ترجمہ:

مند الامام احمد: 3/3؛ المجمع الکبیر للطبرانی: 38/3

141۔ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْنَمٍ، عَنْ

سُفِيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمَاءِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ۱۴۱۔ سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین جتنی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

تحقیق:

[اسنادہ ضعیف]

یزید بن ابی زیاد الکوفی جہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

تحریر:

منہد الامام احمد: 3/64، 80؛ سنن الترمذی: 3768 و قال "حسن صحیح"

142۔ اخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَزَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمَاءِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» مَا اسْتَشِنَّيْ مِنْ ذَلِكَ ۱۴۲۔ سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین جتنی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مگر وہ جواں حکم سے مستثنی ہیں۔

تحقیق و تحریر:

[اسنادہ ضعیف]

اس میں وہی علت ہے جو اوپر والی حدیث میں ہے۔

143۔ اخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نُعْمَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا أَبْنَى الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَخْيَى بْنِ زَكْرِيَّا»

۱۲۳۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سوائے اپنے دو خالہزاد بھائیوں، عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا کے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

مروان بن معاویہ فزاری مدرس ہیں، سماع کی تصریح ثابت نہیں۔ البتہ حکم بن عبد الرحمن بن ابی قعیم "حسن الحدیث" راوی ہے۔

تخریج:

المعرفة والتاريخ لللفسوی: 2/44؛ مشكل الآثار للطحاوی: 2/393؛ المجمع الكبير للطبرانی: 2/27؛ المعتبر للحاکم: 3/166، وقال "هذا حديث قد صلح من أوجه كثيرة" حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعاقب کیا ہے۔ اسے امام ابن حبان (6959) نے بھی "صحیح" کہا ہے۔

**ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ
وَالْحُسَيْنُ رَيْحَانَتَيْ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا»**

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”حسن اور حسین (رضی اللہ عنہما) اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں،“

144۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ. عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْنَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْنِي أَنَّسَ بْنَ
مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْنَا، وَرَبِّنَا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى بَطْنِهِ " قَالَ: وَيَقُولُونَ: «رَيْحَانَتَيْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ »

۱۴۳۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس
وقت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے شکم اطہر پر کھیل رہے تھے اور آپ ﷺ فرماتے
تھے: یہ اس امت میں میرے دو پھول ہیں۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

حسن بصری مدرس ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رض سے مدد بزار (1078) میں بسند حسن اس کا ایک شاہد بھی آتا ہے۔ یوں یہ روایت ”حسن“ ہو جاتی ہے۔ مجعم کبیر طبرانی (4/185) والی روایت میں حسن بن عنیسہ راوی ضعیف ہے۔

145 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَغْفُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا بْنَ عَنْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَغْفُوبَ، عَنْ أَبِنِ أَبِي نَعْمَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعْوضِ، يَكُونُ فِي ثُوبِهِ أَيُّصَلَّى بِهِ؟ فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: «مَنْ يَغْذِرْنِي مِنْ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعْوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا أَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هُمَا زُبُحَانِي مِنَ الدُّنْيَا»

۱۴۵ - ابن ابومسلم سے روایت ہے کہ میں سیدنا عبد اللہ بن عمر رض کے پاس موجود تھا اتنے میں ایک آدمی نے آکر ان سے کمکھی کے خون کے بارے میں پوچھا کہ اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے، کیا ان میں وہ نماز پڑھ لے؟ سیدنا عبد اللہ بن عمر رض نے فرمایا: تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا: میں اہل عراق سے ہوں تو انہوں نے فرمایا: مجھے کون شخص معدود سمجھے گا! اگر میں اس کی طرف نہ دیکھوں یا اس کو جواب نہ دوں، اس شخص سے جو مجھ سے کمکھ قتل ہو جانے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 5994: حافظ ابو نعیم اصحابی رض فرماتے ہیں:

صَحِيفَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ شُغْنَةَ وَمَهْدِيٍّ

”یہ حدیث متفق علیہ ہے، شعبہ اور مہدی سے مردی ہے۔“

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْ فَاطِمَةَ وَفَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ»

سیدنا علیؑ کے لیے نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان:

”علی! تم فاطمہ سے میرے نزدیک زیادہ معزز ہوا اور

فاتمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے“

146۔ اخْبَرَنِي زَكَرِيَا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي تَعْبِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، عَلَى الْمُنْبِرِ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: خَطَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَرَوَجَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ هِي؟ فَقَالَ: «هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا»

۱۴۶۔ ابن ابی تعبیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا، سیدنا علیؑ کوفہ کے منبر پر فرم رہے تھے: جب میں نے رسول اللہ ﷺ کی طرف سیدہ فاطمہؓ کا پیغام نکاح بھیجا تو آپ نے میری ان سے شادی کر دی کیا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: فاطمہ سے زیادہ محبت ہے مگر تم میرے لئے اس سے زیادہ معزز ہو۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابن ابی شح کم اور سفیان بن عینہ دونوں مدرس ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔ اس میں ایک ”رجل مبهم“ بھی موجود ہے۔

تخریج:

زواائد فضائل الصحابة للقطبي: 1076

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «مَا

سَأَلْتُ لِنَفْسِي شَيْئًا إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ لَكَ»

نبی کریم ﷺ کا سیدنا علی علیہ السلام کے لیے یہ فرمان:

”جو میں نے اپنے لیے ماں گا، وہی تیرے لیے بھی ماں گا“

147۔ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْصُورٌ بْنُ أَبِي الْأَسْنَدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ، وَأَنَا مُضطَجِعٌ، فَأَتَكَأْ إِلَى جَنِيِّ، ثُمَّ سَجَّانِي بِثُوْبِهِ، فَلَمَّا رَأَنِي قَدْ هُدِيَتْ قَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَرَقَعَ التَّوْبَ عَنِي وَقَالَ: «فَمُّ يَا عَلِيُّ فَقَدْ بَرِئْتَ، فَقُمْتُ كَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكْ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ» فَقَالَ: «مَا سَأَلْتُ رَبِّي شَيْئًا فِي صَلَاتِي إِلَّا أَغْطَانَيِ، وَمَا سَأَلْتُ لِنَفْسِي شَيْئًا إِلَّا قَدْ سَأَلْتُ لَكَ» خَالَفَهُ جَعْفَرُ الْأَحْمَرُ فَقَالَ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ

۱۴۸۔ سیدنا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں یمار تھا، رسول اللہ ﷺ عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت لیٹا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے میرے پہلو میں ٹیک لگائی، پھر اپنے کپڑے

سے مجھے ڈھانپ دیا پھر جب دیکھا کہ مجھے سکون ہو گیا ہے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، جب نماز پڑھا چکے پھر میرے پاس تشریف لائے، مجھ سے کپڑا اٹھا دیا اور فرمایا: اے علی اٹھ جاؤ اب تم (بیماری سے) آزاد ہو۔ میں اٹھا تو مجھے ایسے محبوس ہوا جیسا کہ پہلے مجھے بیماری تھی ہی نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے نماز میں جس چیز کا بھی سوال کیا وہ مجھے عطا کی گئی تو جو میں نے اپنی ذات کے لیے مانگا ہے، تیرے لیے بھی اس چیز کا سوال کیا ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جعفر الاحمر نے اس روایت کی سند میں اختلاف کیا ہے اور کہا: اصل سند یوں ہے: عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد اللہ بن حارث عن علی۔۔۔۔۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

یزید بن ابی زیاد کو فی راوی جمہور محدثین کے نزد یک "ضعیف" اور "رسی الحفظ" ہے، سلیمان بن عبد اللہ بن حارث راوی "مجہول الحال" ہے۔ سوائے ابن حبان [ال拾یات: 383/6] کے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔

علی بن ثابت و حقان راوی "حسن الحدیث اور صدوق" ہے۔

تخریج:

تاریخ دمشق لابن عساکر: 311/42

148 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاً بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّنَا عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّنَا جَعْفَرُ الأَخْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: وُجِعْتُ وَجَعَا فَأَتَيْنِتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَامَنِي فِي مَكَانِهِ، وَقَامَ يُصَنِّلِي، وَأَلْقَى عَلَيْهِ طَرَفَ ثُوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قُمْ يَا عَلَيْهِ قَدْ بَرِئْتَ، لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَمَا دَعَوْتُ لِنَفْسِي إِشْرِيْءِ إِلَّا دَعَوْتُ لَكَ مِثْلَهُ، وَمَا دَعَوْتُ إِشْرِيْءِ إِلَّا قَدْ اسْتُجِيبَ لِي» أَوْ قَالَ: أَغْطِبِيْتُ إِلَّا أَنَّهُ قَبِيلَ لِي: لَا نَيْ بَغْدَكَ

۱۳۸۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ میں شدید بیمار تھا، میں نبی کریم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے مجھے اپنی جگہ لٹا دیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ اپنی چادر مبارک کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا [جب واپس تشریف لائے] پھر فرمایا: اے علی! انھجاؤ، اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے (اپنے رب سے) جو اپنی ذات کے لئے مانگا ہے، تیرے لئے بھی اس کی مثل چیز کا سوال کیا ہے۔ میں نے اپنے رب سے جو بھی دعا مانگی وہ قبول ہوئی، یا فرمایا: (جو میں نے مانگا وہ) عطا کیا گیا مگر مجھ یہ کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

تحقیق:

[اسنادہ ضعیف]

یزید بن ابی زیاد کوئی راوی جمہور محدثین کے نزدیک "ضعیف" اور "سی احفظ" ہے، یزید کی متابعت عمر بن ابی عمار نے کر کی ہے۔ [تاریخ دمشق لابن عساکر: 309/42] لیکن اس کی سند ضعیف ہے، تیکی بن زرعد راوی کی تو شیق نہیں مل سکی، یوں یہ متابعت چند اس مفید نہیں۔

تخریج:

السنة لابن ابی عاصم: 1313؛ المجمع الاوسط للطبرانی: 7917

ذِكْرُ مَا خَصَّ بِهِ عَلِيًّا مِنَ الدُّعَاءِ

سیدنا علیؑ کی اس خاص فضیلت کا بیان:

”نبی کریم ﷺ کا ان کے لیے دعا کرنا“

149۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِيمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْدِيِّ، عَنْ عَلَيِّ، أَنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، فَمَنْ يُوَارِيهِ؟» قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، وَلَا تُخْدِثْ حَدَّثًا حَتَّى تَأْتِيَ فَقَعْلَتُ، ثُمَّ أَتِيَنَاهُ، فَأَمْرَنَاهُ أَنْ أَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ، وَدَعَا لِي بِدَعَوَاتِ مَا يَسْرُونِي مَا عَلَى الْأَرْضِ بِسَيِّئِهِ مِنْهُنَّ»

129۔ سیدنا علی الرضاؑ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ کا گم گشتہ راہ چھادم توڑ گیا ہے، اسے کون دفن کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اپنے باپ کو دفن کر کے آؤ اور (سنو) اس وقت تک کوئی بات نہ کرنا یہاں تک کہ واپس میرے پاس آجائے۔ میں نے ایسا ہی کیا پھر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا۔ پس میں نے غسل کیا۔ اس وقت آپ ﷺ نے میرے لیے کئی ایک دعا میں فرمائیں وہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اچھی لگنے والی ہیں۔

تحقیق:

[صحیح]

تخریج:

مند امام احمد: 131، 97/1؛ سنن ابی داؤد: 3214؛ سنن النسائی: 190، 2008؛ صحیح ابن خزیمہ [کما فی الاصابة لابن حجر: 114/7] و ابن الجارود: [550] و آخرجه ابو داؤد الطیاری (ص: 19، ح: 120) و سنده حسن متصل

150- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى، عَنْ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي فُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ، عَنِ الشَّعْفَى، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: "مَا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: كَلِمَةً مَا أُحِبُّ أَنْ لِي هِيَ الدُّنْيَا"

150- سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ جب میں (اپنے والد کو فون کر کے) واپس نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے میرے لیے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو مجھے اس دنیا سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہے۔

تحقیق و تخریج:

[استادہ حسن]

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ صَرْفٍ أَذَى الْحَرَّ وَالْبَرَدِ عَنْهُ

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس خاص فضیلت کا بیان:

”گرمی اور سردی کی تکلیف ان سے پھیر دی گئی ہے“

151۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ بْنِ إِنْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَخْلُدٍ الثَّقْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّيُ أَيُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ جَدِّي، عَنْ إِنْرَاهِيمَ الصَّائِنِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ إِنْرَاهِيمَ الصَّائِنِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلَيْهَا خَرَجَ عَلَيْنَا فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشَّتَاءِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشَّتَاءِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الصَّيفِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ مَسَحَ الْعَرَقَ عَنْ جَبَهَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَبِيهِ قَالَ: يَا أَبَتِ «أَرَأَيْتَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ خَرَجَ إِلَيْنَا فِي الشَّتَاءِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الصَّيفِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصَّيفِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشَّتَاءِ» فَقَالَ أَبُو لَيْلَى: هَلْ فَطِّنْتَ؟ وَأَخْذَ بِيَدِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ: إِنَّ السَّيِّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَيْهِ، وَأَنَا أَرْمَدُ شَدِيدَ الرَّمَدِ، فَبَرَّقَ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ: «افْتَخِ عَيْنَيْكَ فَفَتَحْتُمُهُما، فَمَا اشْكَنَيْتُمَا حَتَّى السَّاعَةِ، وَدَعَا لِي» فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرَدَ، فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا، وَلَا بَرًّا حَتَّى يَوْمِي هَذَا»

151۔ عبد الرحمن بن أبي ليل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سخت گرمی کے موسم میں

ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ ﷺ نے سردیوں والا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پھر (کسی وقت) آپ ﷺ سردیوں کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ ﷺ نے گرمیوں والا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پھر پانی منگوا کر پیا اور اپنی پیشانی مبارک سے پسند صاف کیا (جب وہ چلے گئے) میں اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا: اے ابا جان! کیا آپ نے دیکھا امیر المؤمنین نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ سردی کے موسم میں تشریف لائے، انہوں نے موسم گرم کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور جب ہمارے پاس گرمیوں کے موسم میں تشریف لائے، انہوں نے موسم سرم کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ابو لیلی ﷺ نے کہا: کیا تم نے اس پر غور کیا ہے پھر ابو لیلی ﷺ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اور سیدنا علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیدنا علیؑ نے ان کو فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے میری طرف کسی کو بھیجا مگر میں شدید آشوب چشم میں بتلا تھا، آپ ﷺ نے میری آنکھ میں لعاب دہن ڈالا پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی آنکھیں کھولو، میں نے اپنی دونوں آنکھیں کھولیں، میں نے ان دونوں میں کوئی تکلیف نہیں پائی یہاں تک کہ آج یہ دن آچکا ہے (یعنی آج تک کبھی تکلیف نہیں ہوئی) اور دعا فرمائی: اے اللہ! علی سے گرمی اور سردی کو دور فرم۔ اس دن سے مجھے نہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور نہ سردی۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابو سحاق راوی ”ملس“ اور ”مخلط“ ہے، ایوب بن ابراہیم مجہول الحال ہے۔

ترجمہ:

المجم الاوست للطبراني: 2286

النَّجْوَى، وَمَا حُفِّفَ بِعَلَيِّ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

سیدنا علی الرضا ؓ کی اس فضیلت کا بیان:

”ان کے سبب اس امت پر آسانی کی گئی،“

152. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمُوصِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ الْجَزِيمُ، عَنْ سُفِيَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِيمَ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلَيِّ، قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ {يَا أَهْلَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّوْسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيِّ: «مَرْهُمْ أَنْ يَتَصَدَّقُوا» قَالَ: بِكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِدِيَنَارٍ» قَالَ: لَا يُطِيقُونَ قَالَ: «فَنِصْفِ دِيَنَارٍ» قَالَ: لَا يُطِيقُونَ قَالَ: «فِي بَيْكُمْ؟» قَالَ: بِشَعِيرَةٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَرَهِيدٌ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ} [المجادلة: 13] إِلَى آخرِ الآيةِ، وَكَانَ عَلَيِّ يَقُولُ: «بِي حُقْفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ»

152۔ سیدنا علی الرضا ؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ترجمہ: ”اے ایمان والا! جب تم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔“ (سورۃ مجادلۃ: آیت نمبر: ۱۲) تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سیدنا علی رضا سے فرمایا: ان (لوگوں) کو حکم دو کہ وہ صدقہ دیں، سیدنا علی رضا نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! کتنا؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ایک

دینار، انہوں نے عرض کیا: وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، آپ ﷺ نے فرمایا: آدھا دینار، عرض کیا: وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر کتنا؟ عرض کیا: ایک جو کے برابر، رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرمایا: بلاشبہ تم بہت بے رغبتی کرنے والے ہو تو اللہ رب العزت نے اس حکم کو نازل فرمایا، ترجمہ: ”کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟“ آخر آیت تک (سورۃ مجادلہ: آیت نمبر: ۱۳) چنانچہ سیدنا علیؑ نے فرمایا کرتے تھے: اس امت پر یہ آسانی میری وجہ سے ہوئی ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

علی بن علقہ انماری کو فی ضعیف اور سفیان ثوری ”ملس“ ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخریج:

مصنف ابن الہیثہ: 12/81؛ مسن عبد بن حمید: 90؛ سنن الترمذی: 3300 و قال ”حسن غریب“؛ مسن البزار: 668؛ مسن ابی یعلی: 400؛ تفسیر الطبری: 21/28
 امام ابن عدی (الکامل فی ضعفاء الرجال: 204/5) کی روایت میں شریک بن عبد اللہ نے سفیان ثوری کی متابعت کر رکھی ہے۔ مگر شریک بن عبد اللہ قاضی بھی ملس ہیں، لہذا یہ متابعت مفید نہیں۔
 اسے امام ابن حبان (6941) نے ”صحیح“ کہا ہے۔

ذِكْرُ أَشْقَى النَّاسِ

لوگوں میں سب سے بڑے بدجنت کا بیان

153۔ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِمَاكٍ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَازِيُّ
 قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ
 حُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَغْبٍ الْفُرَاطِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
 قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ فَلَمَّا نَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقَامَ هَذَا رَأَيْنَا أَنَاسًا مِنْ تَبَيِّ مُذْلِجٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ لَهُمْ، أَوْ فِي نَخْلٍ «
 فَقَالَ لِي عَلَيُّ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِي هَؤُلَاءِ، فَنَنْظُرْ كَيْفَ يَعْمَلُونَ؟»
 قَالَ: قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ فَجِئْنَاهُمْ، فَنَظَرْنَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً، ثُمَّ غَشِيَّنَا النَّوْمُ،
 فَانْطَلَقْنَا أَنَا وَعَلَيُّ حَتَّى اضْطَجَعْنَا فِي ظِلِّ صُورَ مِنَ النَّخْلِ، وَدَفَعْنَا مِنَ التُّرَابِ،
 فَنَمِنَّا فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَهَا إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ، وَقَدْ
 تَرَيْنَا مِنْ تِلْكِ الدَّفَعَاءِ الَّتِي يَنْمِنَا فِيهَا، فَيَوْمَئِذٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لِعَلَيِّ: «مَا لَكَ يَا أَبَا طَالِبٍ؟» لِمَا يَرَى مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا
 أَحِدٌ تُكْمِلُ بِإِشْقَى النَّاسِ؟» قَلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَحِينَمُرْ ثَمُودُ الَّذِي عَقَرَ
 النَّافَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلَيُّ عَلَى هَذِهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَزْبَهِ حَتَّى يَبْلُءَ مِنْهَا هَذِهِ،
 وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ»

153۔ سیدنا عمار بن یاسر رض سے روایت ہے کہ میں اور سیدنا علی بن ابی طالب رض غزوہ [ذات
 عشرہ] میں ایک ساتھ تھے، جب ہم نے بزم لمح کی جگہ پڑا اوزالا، ہم نے بزم لمح کے لوگوں کو دیکھا جو

ہمارے سامنے اپنی کھجوروں [کے باغ] میں کام کر رہے تھے، سیدنا علی ڦانچو نے مجھے فرمایا: اے ابو یقظان! کیا ہم اس کے پاس جا کر نہ دیکھیں، یہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: اگر آپ چاہتے ہیں تو چلتے ہیں۔ ہم نے ٹھوڑی دیران کے کام کو دیکھا، پھر ہم پر نیند کا غلبہ ہونے لگا، میں اور سیدنا علی ڦانچو دونوں آ کر کھجوروں کے سامنے تلے سو گئے۔ ہم خاک آسود ہو چکے تھے۔ ہم سوئے رہے، اللہ کی قسم، ہمیں رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی نہیں جگایا، آپ ﷺ نے ہمیں پاؤں مار کر جگایا، یقیناً ہم خاک آسود ہو چکے تھے، جس میں ہم سوئے ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس دن سیدنا علی ڦانچو سے فرمایا: اُنہوائے ابوتراب (اے منی والے)، تمہیں کیا ہوا؟، ان پر منی دیکھنے کے سبب آپ ﷺ نے یہ [ابوتراب] فرمایا تھا پھر ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو دنیا کے دو سب سے بد بخت آدمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں، ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: دنیا میں سب سے بد بخت، انہیں شمودی تھا جس نے اُنثی کو کاث ڈالا تھا۔ اے علی دوسرا وہ ہے جو تجوہ کو شہید کرے گا یہ بیان کرتے ہوئے سیدنا علی ڦانچو نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر کی چوٹی پر رکھا یہاں تک کہ اس کے مارنے سے یہ داڑھی [خون سے] تر ہو جائے گی، اس وقت آپ ڦانچو نے اپنے ڈاڑھی مبارک کو کپڑا لیا۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

محمد بن خثیم راوی کا محمد بن کعب قرظی سے سماع نہیں ہے۔ [التاریخ الکبیر للجخاری: 71/1]

تخریج:

مندرجہ امام احمد: 4/263؛ امتدارک للحاکم: 3/140 و قال "صحیح علی شرط مسلم" وافقہ النہجی۔

اس روایت کا سند حسن شاہد مندرجہ عبد بن حمید (92) میں ان الفاظ کے ساتھ آتا ہے:

فائدہ:

ابو سنان یزید بن امیہ الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی ڦانچو ایک بیماری سے صحت یا ب

ہوئے تو ہم نے ان سے عرض کیا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَصْحَّكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كُنَّا خِفْنًا عَلَيْكَ فِي مَرَضِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَكِي لَمْ أَخْفَ عَلَى تَفْسِيْيِي، حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: «لَا تَمُوتُ حَتَّى يُضْرِبَ هَذَا مِنْكَ - يَعْنِي رَأْسُهُ - وَتُخْضَبَ هَذِهِ دَمًا يَعْنِي لِحْيَتَهُ، وَيَقْتُلُكَ أَشْقَاهَا كَمَا عَقَرَ نَاقَةً اللَّهُ أَشْقَى بَنِي فُلَانٍ خَصَّهُ إِلَى فَخِنْدِهِ الدُّنْيَا دُونَ ثَمُودَ»

”اے امیر المؤمنین! اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آپ کو صحت دی، ہمیں تو آپ کی اس بیماری پر ڈور تھا، (کہ کہیں آپ بِلِ اللّٰهِ وَفَاتٍ ہی نہ پا جائیں) تو سیدنا علی بِلِ اللّٰهِ وَبِلِ اللّٰهِ نے فرمایا: مجھے تو اپنے آپ پر کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ مجھے صادق المصدق نبی کریم بِلِ اللّٰهِ وَبِلِ اللّٰهِ نے فرمایا تھا: تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی، جب تک کہ تیر سرخی نہ ہوا درڑاڑھی خون آ لو دنہ ہو جائے اور تجھے ایک بد بخت ترین آدمی شہید کرے گا، جس طرح کہ بد بخت شمودی قوم نے اللہ رب العزت کی اوپنی کو مارڈا لاتھا، انہوں نے ران کے قریب سے اوپنی کا پیٹ پھاڑ دیا تھا، البتہ انہیں شمودی نامی آدمی نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا۔“

اسے امام حاکم بِلِ اللّٰهِ وَبِلِ اللّٰهِ(3) 113/3 نے امام بخاری بِلِ اللّٰهِ کی شرط پر ”صحیح“ کہا ہے۔ باقی سیدنا علی بِلِ اللّٰهِ کی کنیت ”ابو تراب“ یہ صحیح بخاری (3703) اور صحیح مسلم (2409) میں ثابت ہے۔

ذِكْرُ أَحَدَتِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیدنا علی ڏالله کی اس فضیلت کا بیان:

”انہوں نے سب سے آخر میں نبی کریم ﷺ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا،“

154۔ أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ أَحَدَتِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ سیدہ ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ سب سے آخر میں نبی کریم ﷺ سے جس نے گفتگو کا شرف حاصل کیا وہ سیدنا علی ڏالشیعیین۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

مغیرہ بن مقدم مدرس ہیں، سامع کی تصریح نہیں مل سکی۔

155۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «وَالَّذِي تَحَلَّفَ بِهِ أُمُّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ» قَالَتْ: لَمَّا كَانَ غَدَاءً فَيَضَرُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَرَى فِي حَاجَةٍ أَطْئُنَةً بَعْثَةً فَجَعَلَ يَقُولُ: «جَاءَ عَلَيْيِ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ: فَجَاءَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ عَرَفْنَا أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ، وَكُنَّا عُذْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكُنْتُ فِي آخِرِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ جَلَسْتُ أَذْنَاهُنَّ مِنَ الْبَابِ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ، فَكَانَ آخِرَ النَّاسِ بِهِ عَنْهَا، جَعَلَ يُسَارُهُ، وَيُنَاجِيهِ

۱۵۵۔ سیدہ ام سلمہ رض سے روایت ہے کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ سب سے آخری انسان جس سے رسول اللہ ﷺ نے کچھ خاص گفتگو کی ہے وہ سیدنا علی رض تھے۔ جس روز صح کے وقت رسول اللہ ﷺ دنیاے فانی سے رخصت ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ رض کہتی ہیں: میرا خیال ہے کہ اس دن آپ نے سیدنا علی رض کو کسی کام سے بھیجا تھا تو آپ رض نے تم مرتبا یہ فرمایا: کیا علی آگے گئے ہیں؟ یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے سیدنا علی رض بھی حاضر ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لئے ہم گھر [یعنی سیدہ عائشہ رض کے حجرے] سے باہر چل گئیں، اس دن ہم [ازواج مطہرات] رسول اللہ ﷺ کی تیارداری کی غرض سے سیدہ عائشہ رض کے حجرے میں جمع تھیں، سب سے آخر میں میں اس گھر [یعنی سیدہ عائشہ رض کے حجرے] سے باہر نکلی تھی، میں دروازے کے پیچھے ان کے سب سے زیادہ قریب بیٹھی ہوئی تھی، سیدنا علی الرضا رض آپ رض پر جھکے اور انہوں نے تمام لوگوں میں سب سے آخر میں نبی کریم ﷺ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا، البتہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے کچھ خاص اور راز و نیاز کی باتیں کی۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

مغیرہ بن مقسم مدرس ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخریج:

مند الامام احمد: 6/300؛ المستدرک للحاکم: 3/138؛ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے "صحیح علی شرط الشیخین" کہا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

فائدة:

اُمّ موئی راویہ "حسن الحدیث" ہیں۔

**ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْهِ يُقَاتِلُ
عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلَتْ عَلَى تَنْزِيلِهِ»**

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”علیٰ (رضی اللہ عنہ) قرآن کریم کی تاویل پر جہاد کرے گا

جس طرح کہ میں نے اس کے نازل ہونے پر کیا ہے“

ابن حمزة

156۔ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةُ، وَالْفَاظُ لَهُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ، عَنْ سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا تَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا قَدْ انْقَطَعَ شَسْنَعُ نَعْلِهِ، فَرَمَى بِهَا إِلَى عَلَيِّ فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلَتْ عَلَى تَنْزِيلِهِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا؟ قَالَ: «لَا» قَالَ عُمَرُ: أَنَا قَالَ: «لَا، وَلِكُنْ صَاحِبَ النَّغْلِ»

157۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بیٹھے رسول اللہ ﷺ کا انتظار کر رہے تھے، اسی اثناء میں رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ ﷺ کے جو تے کا تمہٹوٹ گیا تو سیدنا علیؑ کو دیکھ دیا پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ایک شخص قرآن کی تاویل

پر جہاد کرے گا جس طرح میں نے اس کے نازل ہونے پر جہاد کیا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رض نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ وہ میں ہوں فرمایا: نہیں پھر سیدنا عمر فاروق رض نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ وہ میں ہوں فرمایا: نہیں بلکہ وہ صاحب اعل [جو توں کو گانٹھنے والا] ہے۔

تحقیق:

[حسن]

تلخیص:

مصنف ابن أبي شیبۃ: 12/64؛ مند الامام احمد: 3/31، 33، 82؛ زوائد فضائل الصحابة للقطنی: 1071؛ صحیح ابن حبان [6937] و قال الخاکم [122/3] "صحیح علی شرط الشیخین" و اتفاقه الذهبی۔

الْتَّرْغِيبُ فِي نُصْرَةِ عَلِيٍّ

سیدنا علیؑ کی مدد کے لیے ترغیب دلانے کا بیان

157۔ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الرَّحْبَةِ أَنْسُدُ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ وَلِيٌّ وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ كُنْتُ وَلِيًّا، فَهُدَا وَلِيًّا، اللَّهُمَّ وَالِّيْ مَنْ وَالَّهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَهُ، وَانصُرْ مَنْ نَصَرَهُ» فَقَالَ سَعِيدٌ: «قَامَ إِلَى جَنِيْ سِتَّةً» وَقَالَ حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةً» وَقَالَ زَيْدُ بْنُ يَتَّبِعِ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةً» وَقَالَ عَمْرُو دُوْ مَرِّ: «أَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَابْغَضَ مَنْ أَبْغَضَهُ»

157۔ سعید بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سیدنا علیؑ کے ساتھ ایک وسیع میدان میں موجود تھا تو انہوں نے فرمایا: میں اللہ رب العزت کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کس نے سنار رسول اللہ ﷺ کا مولیٰ غدر ختم کے دن فرمائے تھے: اللہ میرا ولی [دost] ہے، میں ہر مرمن کا ولی ہوں اور میں جس کا مولیٰ ہوں، یہ [علیٰ] اس کا مولیٰ ہے، اے اللہ! علیٰ کے دوست کو تو بھی اپنا دوست بنا اور علیٰ کے دشمن کو اپنا دشمن بنا اور اس کی مدد فرماجو اس کا معاون بنے۔ سعید بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میرے پاس سے پچھے بنا اور اس کی مدد فرماجو اس کا معاون بنے۔ سعید بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میرے پاس سے بھی پچھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حارثہ بن مضرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے بھی پچھے صحابہ کرام کھڑے

ہوئے زید بن شیع رض کہتے ہیں: میرے پاس سے بھی چھٹے صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور عمر و ذوفن德 رض نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں: اے اللہ تو اس شخص سے محبت کر، جوان سے محبت کرتا ہے اور اس شخص سے بغض رکھ، جوان سے بغض رکھتا ہے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

اعمش راوی "ملس" ہے، ابو اسحاق راوی "ملس" اور "خلط" ہے۔

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمَّا رَأَيْتُ لَهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”عَمَّارُ كَوَايْكَ بَاغِيًّا گُرُودَ قَلَ كَرَ گَا“

158۔ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: «تَفْتَلَهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُ أَبُو ذَاوَدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ الْحَسَنِ

158۔ سیدہ ام سلمہؓؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا عمارؓؒ کو فرمایا: تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

امام نسائیؓؒ فرماتے ہیں: امام ابو داؤدؓؒ نے اس سند کی مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں: اصل سند یوں ہے۔ عن شعبة، عن خالد، عن الحسن۔

تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 2916، یہ حدیث متواتر ہے۔

(سیر اعلام البهاء للله عزیز: 1/419، نظم المتأثر في الحديث المتواتر للكتابي: 126)

159۔ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ذَاوَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَيُوبُ، وَخَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: «تَفْتَلَكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنَى عَنِ الْحَسَنِ

۱۵۹۔ سیدہ ام سلمہ عليها السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار رض کو فرمایا: تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

تحقیق و تخریج:

مندالامام احمد: 300/6: صحیح مسلم: 2916

۱۶۰۔ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ رُذْنَعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ الْلَّبَنَ، وَقَدِ اغْبَرَ شَغْرَ صَدَرِهِ» قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا نَسِيْتُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ» قَالَتْ: وَجَاءَ عَمَّارٌ فَقَالَ: «ابْنُ سُمِّيَّةَ تَفْتَلَكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ»

۱۶۰۔ سیدہ ام سلمہ عليها السلام سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایشیں (پکڑ کر) دیتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے بال غبار آلود ہو گئے تھے۔ سیدہ ام سلمہ عليها السلام بیان کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم! مجھے وہ منظر نہیں بھولا جکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے: اے اللہ، بلاشبہ حقیقی بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرمایا: سیدہ ام سلمہ عليها السلام کہتی ہیں۔ اسی دوران میں سیدنا عمار رض حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سیہے کے بیٹے! تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

تحقیق و تخریج:

مندالامام احمد: 315, 289/6: صحیح مسلم: 73

161. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا نَسِيْتُ يَوْمَ الْخَنَدَقِ، وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ الْبَيْنَ، وَقَدْ اغْبَرَ شَغْرَهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِلْمَهَاجِرَةِ». وَجَاءَ عَمَّارٌ فَقَالَ: «يَا ابْنَ سُمِّيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ»

161. سیدہ ام سلمہ رض سے روایت ہے کہ مجھے غزوہ خندق کے دن کا وہ منظر نہیں بھولا جب نبی کریم ﷺ صاحب کرام کو ایٹھیں (پکڑ کر) دیتے تھے جس سے آپ ﷺ کے صدر اطہر کے بال غبارآلود ہو گئے تھے اس وقت آپ ﷺ فرماتے تھے: اے اللہ! بلاشبہ حقیقی بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما۔ اسی دوران سیدنا عمر رض حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے سمیہ کے بیٹے! مجھے ایک با غنی گروہ قتل کرے گا۔

تحقیق و تخریج:

مندالامام احمد: 315, 289/6: صحیح مسلم: 73/2816

162. أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ»

162. سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا عمر رض کو فرمایا: مجھے ایک با غنی گروہ قتل کرے گا۔

تحقیق و تخریج:

مندالامام احمد: 90/3: صحیح البخاری: 2812, 447

163. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ،

عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِي أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِعْمَارٌ بُؤْسًا لَّكَ يَا ابْنَ سُمِّيَّةَ، وَمَسْحَ الغُبَّارَ عَنْ رَأْسِهِ تَفْتَلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ»

۱۶۳۔ سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ مجھ سے بہتر شخص سیدنا ابو قاتا دہ رض نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار رض کو فرمایا: اے سمیہ کے بیٹے! تیرے لیے پریشانی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے سر سے مٹی صاف کر رہے تھے تو فرمایا: تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ حسن]

مند الامام احمد: 306/5؛ صحیح مسلم: 2235/4

۱۶۴۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَامُ، عَنْ الْأَنْسَوْدِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حُوَيْلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَعَاوِيَةَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ يَخْتَصِمُنِي فِي رَأْسِ عَمَّارٍ يَقُولُ: «كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لِيَطْبِبَ بِهِ أَخْدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَفْتَلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفُهُ شُغْبَةُ فَقَالَ: عَنِ الْعَوَامِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ سُوِينِي

۱۶۵۔ خظلہ بن خویلہ رض سے روایت ہے کہ میں سیدنا معاویہ رض کے پاس تھا، ان کے پاس دو آدمی سیدنا عمار رض کے سر کا جھگڑا لے کر آئے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کو قتل کیا ہے تو سیدنا عبد اللہ بن عمر رض نے کہا: تم دونوں میں سے ہر ایک (اپنے ساتھی کو شہید کر کے) ایک دوسرے پر خوش ہو رہا ہے حالانکہ میں نے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تھے: اس (سیدنا عمار رض) کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام شعبہ نے اس سند کی مخالفت کی انہوں نے کہا: اصل سند یوں ہے۔ عن العوام، عن رجل، عن حنظلة بن سوید۔

تحقیق:

[اسناد صحیح]

حافظ ذہبی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ [معجم المختص ص: 96]

تخریج:

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: 253/3؛ مند الامام احمد: 206، 164/2

165۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَوَامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي شَيْبَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ سُوْنَدٍ قَالَ: جِيءَ بِرَأْسِ عَمَّارٍ، فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَفْتَلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ»

165۔ حنظله بن سوید سے روایت ہے کہ کوئی آدمی سیدنا عمار ڦانچہ کا سر لے کر آیا۔ سیدنا عبد اللہ بن عمرو ڦانچہ نے کہا: میں نے سار رسول اللہ ﷺ سے فرمایا فرمایا ہے تھے: اس (سیدنا عمار ڦانچہ) کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد صحیح]

اس میں ”رجل مبهم“ سے مراد اسود بن مسعود ہے۔

166۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَفْتَلُهُ عَمَّارًا الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

166۔ سیدنا عبد اللہ بن عمرو ڦانچہ سے روایت ہے کہ میں نے سار رسول اللہ ﷺ سے فرمایا ہے تھے: عمار کو

ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

امام نسائی فرماتے ہیں : ابو معاویہ نے اس سند سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے یوں بیان کیا ہے۔ عن الأعش، عن عبد الرحمن بن زیاد، عن عبد اللہ بن الحارث۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

عبد الرحمن بن زیاد نے سیدنا عبد اللہ بن عمر و علیہ السلام سے سامع نہیں کیا، اعش راوی "مس" ہے۔
167۔ أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو نَخْوَةَ.
خَالِفُهُ سُفِيَّانُ الثُّوْرَى فَقَالَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ زَيَادَ۔
7۔ عبد اللہ بن حارث نے سیدنا عبد اللہ بن عمر و علیہ السلام سے اس کی مثل روایت بیان کی ہے۔

امام نسائی فرماتے ہیں : سفیان ثوری نے اس سند سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا: اصل سند یوں ہے: عن الأعش، عن عبد الرحمن بن ابی زیاد۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

اس میں وہی علتِ ضعف ہے جو اپرواہی حدیث میں تھی۔
168۔ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفِيَّانَ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ زَيَادَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنِّي لَأَسْأِبِرُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِي وَمُعَاوِيَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارًا» فَقَالَ عَمْرُو
لِمُعَاوِيَةَ «أَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَحَذَفَهُ» قَالَ: «نَحْنُ قَتَلْنَاهُ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ جَاءَ

بِهِ، لَا تَزَالُ دَاهِجًا فِي بَؤْلَكَ»

۱۶۸۔ عبد اللہ بن حارث سے روایت ہے کہ میں سیدنا عبد اللہ بن عمر و سیدنا عمر و بن العاص اور سیدنا معاویہؓ کے ساتھ چل رہا تھا، پس سیدنا عبد اللہ بن عمر و بن العاصؓ نے کہا: میں نے نار رسول اللہ ﷺ فرمایا: آپ ہے تھے: عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو سیدنا عمر و بن العاصؓ نے سیدنا معاویہؓ کو کہا: سنا آپ نے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا عبد اللہ بن عمر و بن العاصؓ نے بات چھوڑ دی (کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا) سیدنا معاویہؓ نے کہا: کیا ان کو ہم نے قتل کیا ہے؟ ان کو توصیر انہوں نے قتل کیا ہے جو ان کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ تم ہمیشہ اپنے پیشاہ ہی میں پھسل جاتے ہو۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

اس میں وہی علتِ ضعف ہے جو گزشتہ حدیث میں تھی۔

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَمْرُقُ مَارِقَةُ

مِنَ النَّاسِ سَيِّلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا بیان:

”لوگوں میں ایک گروہ (خوارج) نکلے گا، انہیں دو گروہوں

میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا،“

169۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاؤُدُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةُ مِنَ النَّاسِ سَيِّلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

169۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں میں سے ایک گروہ (خوارج) نکلے گا، انہیں (میری امت کے) دو گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔

تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 1064

170۔ أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ أَمَّتَيْ فِرْقَتَيْنِ، فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهَا أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ»

170۔ سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عنقریب میری امت کے دو گروہ بن جائیں گے۔ پس ان دونوں کے درمیان سے ایک (تیسرا) گروہ نکلے گا ان دونوں میں اسے وہی قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے۔

تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 151/1064

171۔ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَفْرِيقُ أَمَّتَيْ فِرْقَتَيْنِ يَمْرِقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ تَفْتَلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

171۔ سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی پھر ان دونوں کے درمیان سے ایک [تیسرا] گروہ نکلے گا۔ ان دونوں میں اسے وہی قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے۔

تحقیق:

[اسناد صحیح]

تخریج:

مند الامام احمد: 25/3

172۔ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو الْغَيَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَبْرٌ، عَنْ

الْقَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمَرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ تَقْتُلُهَا أَفَإِنَّهُ طَائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

۱۷۲۔ سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کے دو گروہوں میں تقسیم ہو جانے کے بعد ایک [تیرا] گروہ [خوارج] پیدا ہو گا۔ ان کو دو گروہوں میں وہی قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے۔

تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 150/1064

۱۷۳۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسًا فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْنُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، هُمْ مِنْ شَرِّ الْخُلُقِ أَوْ هُمْ شَرُّ الْخُلُقِ، تَقْتُلُهُمْ أَذْنَى الْطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ» قَالَ: وَقَالَ كَلِمَةً أُخْرَى قُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا هِيَ؟ قَالَ: «وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ»

۱۷۴۔ سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں (کے ان گروہوں کا) کا ذکر کیا جو لوگوں سے ایک گروہ کی صورت میں الگ ہو جائیں گے۔ ان کی نشانی رسول کو مونڈنا ہو گی۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کہ تیر شکار (کی ایک جانب میں لگ کر دوسری جانب) سے نکل جاتا ہے۔ وہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے۔ دو گروہوں میں سے انہیں وہی گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہو گا۔ (سند کے ایک راوی) عمرہ نے الہندر سے کہا: انہوں (سیدنا ابوسعید خدری رض) نے کوئی اور بات بھی بیان کی تھی، میں نے کہا: میرے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ (یعنی میرے اور ان کے درمیان راز والی بات تھی) سیدنا ابوسعید خدری رض نے (آگے) یہ بات بیان کی تھی: اے اہل عراق! تم ان کو قتل کرو گے۔

تحقیق و تحریج:

صحیح مسلم: 169/1064

174۔ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ بْنُ الْمُؤْرِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ الْمُشْرِقِيَّ، يُحدِّثُهُمْ وَمَعْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ وَمَنِيفُونَ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ وَأَبُو الْبَخْرِيَّ وَأَبُو صَالِحٍ، وَدَرْ الْهَمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ الْغَرَبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي «قَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَزَكَاتِهِمْ، وَصَوْمَاهُمْ يَمْرِقُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، يُقَاتِلُهُمْ أَفْرَادُ النَّاسِ إِلَى الْحَقِّ»

۱۷۵۔ سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس قوم کے بارے میں بیان فرمایا جو اس امت سے نکلے گی۔ پس آپ ﷺ نے ان کی نماز، زکوٰۃ، اور روزوں کا ذکر کیا (پھر فرمایا) وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کہ تیر غبار سے نکل جاتا ہے۔ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ لوگوں کے گروہوں میں تقسیم ہو جانے کے وقت نکلیں گے ان کو وہ قتل کرے گا جو لوگوں میں سب سے زیادہ حق کے قریب ہوگا۔

تحقیق و تحریج:

صحیح مسلم: 153/1064

ذِكْرُ مَا حُصِّنَ بِهِ عَلَيْيٌ مِنْ قِتَالِ الْمَارِقِينَ

سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کی اس خاص فضیلت کا بیان:

”وَهُوَ خَارِجٌ كَمَا سَأَتْهُ جَنَگٌ كَرِيسٌ“

175. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: يَبْتَأِنَا تَخْنُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْنَمًا أَتَاهُ دُوَّالُ الْخُوَيْنِصَرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْدِلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خَبَتْ وَخَسِرَتْ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» قَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا لِي فِيهِ أَضْرِبُ عُنْقَهُ» قَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاحًا يَخْقُرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَفْرَغُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاهِزُ تَرَاقِبَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرْوَقَ السَّهْنِ مِنَ الرَّمَيَّةِ، يَنْتَظِرُ إِلَى نَصْلِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ إِلَى رِصَافِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ إِلَى نَصِيبِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، وَهُوَ الْقَدَدُ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ إِلَى قُدَّذِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آتَهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِخْدَى عَصْدِيهِ مِثْلُ ثَذِي الْمَرَأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْزُ، يَخْرُجُونَ عَلَى خَبِيرٍ

فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَشَهَدُ أَنِي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشَهَدُ أَنَّ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتِلَهُمْ، وَأَنَا مَعُهُ». فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلَ فَالْتَّمِسَ فَوْجَدَ، فَأَتَيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعْتَ»

۱۷۵۔ سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرمائے تھے، اتنے میں بنوتیم قبیلے سے ”ذوالنحویصرہ“ نامی شخص آیا اور اس نے کہا: اللہ کے رسول انصاف کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تجھ پر افسوس! اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون عدل کرے گا؟، اگر میں عدل نہ کروں، تو تو خائب و خاسر ہو جائے۔“ سیدنا عمر رض نے عرض کیا: مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اس کی گردان اڑاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے چھوڑ دو، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے تم میں سے کوئی اپنی نمازوں کی نماز کے مقابلے میں، اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھے گا، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، پس تیر کے پھل کی جڑ میں دیکھا جائے گا، اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، پھر تیر کے پر کو دیکھا جائے گا اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، پھر تیر کے پیکاں کو دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ (تیر) گوبرا اور خون میں سے گزارا ہوا ہو گا، ان کی نشانی یہ ہے کہ ایک سیاہ فام شخص ہے اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح (انٹا ہوا) ہو گا یا ملتے ہوئے گوشت کی طرح ہو گا، اور وہ لوگوں کے بہترین گروہ کے خلاف بغاوت کرے گا۔“

سیدنا ابوسعید خدری رض نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رض نے ان سے قتال کیا ہے اور میں سیدنا علی رض کے ساتھ تھا، اس شخص کے متعلق حکم دیا گیا تو اسے تلاش کیا گیا اور اسے لا یا گیا حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بیان کیا تھا۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 6933؛ صحیح مسلم: 1064/148

176- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَسْعَى بْنُ هَبْلُولٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَقِيَةً بْنُ الْوَلِيدِ، وَذَكَرَ أَخْرَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالضَّحَّاكَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: يَبْيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُونَصِرَةُ التَّمِيمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْدِلْ فَقَالَ: «وَيَنْحَكَ وَمَنْ يَغْدِلْ إِذَا لَمْ أَغْدِلْ؟» فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ «ائْدُنْ لِي حَتَّى أَضْرِبَ عَنْقَهُ» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَخْتَقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتِهِ، وَصِيَامُهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْدِيَنِ مُرْوَقِ السَّهْنِ مِنَ الرَّمَيَّةِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ، فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ، فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيَّهِ، فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُذَّدِهِ، فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرٍ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، أَيْمَنُهُمْ رَجُلٌ أَذْعَجَ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلَ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ كَالْبَيْضَعَةِ تَدَرَّدَ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «أَشْهَدُ لَسْمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيًّا بْنَ أَبِي طَالِبٍ حِينَ قَاتَلُوهُمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْقَتْلَى، فَأُتَيَ بِهِ عَلَى التَّغْتِ الَّذِي نَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

۱۷۶- سیدنا ابوسعید خدری رض سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرمادیں تھے، اتنے میں بنو تمیم قبلیے سے ”ذو الغویرہ“ نامی شخص آیا اور اس نے کہا: اللہ کے رسول! انصاف کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تجھ پر افسوس! اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون عدل کرے گا؟“ تو سیدنا عمر رض نے کھڑے ہو کر عرض کیا: مجھے اجازت فرمائیں، میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں اسے چھوڑ دو، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، تم میں سے کوئی اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں، اپنے روزے کو ان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھے گا، وہ

دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تیر کے پھل کی جڑ میں دیکھا جائے گا، اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، پھر تیر کے پر کو دیکھا جائے گا، اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، پھر تیر کے پیکان کو دیکھا جائے تو اس پر کمی کوئی نشان نظر نہیں آئے گا اور تیر کے اس حصے کو جو کہ پر اور پیکان کے درمیان ہوتا ہے کو دیکھا جائے تو اس پر کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ (تیر) گوہر اور خون میں سے گزرا ہوا ہو گا اور وہ لوگوں کے بہترین گروہ کے خلاف بغاوت کرے گا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ایک سیاہ فام شخص ہے اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح (انہا ہوا) ہو گا یا بتے ہوئے گوشت کی طرح ہو گا۔

سیدنا ابو سعید خدری رض نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رض نے ان سے لڑائی لڑی ہے اور میں سیدنا علی رض کے ساتھ تھا، اس شخص کے متعلق حکم دیا گیا، اسے تلاش کیا گیا اور اسے لایا گیا حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح نبی کریم ﷺ نے اس کا حلیہ بیان کیا تھا۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 6163

177 - **الْخَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ.** عَنْ أَبْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَقِ، عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ، لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» قَالَ عَلِيٌّ: «كَلِمَةُ حَقٍّ أَرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ نَاسًا، إِنِّي لَأَغْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْحَقَّ بِالْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَمْسَاكٌ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَنْبَغَضِي حَلْقَ اللَّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِخْدَى يَدِيهِ طُبْيَ شَاءَ أَوْ حَلَمَةُ ثَدِيٍّ، قَلَمَّا قَاتَلَهُمْ عَلِيٌّ» قَالَ: انْظُرُوهُمْ فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُمْ شَيْئًا فَقَالَ: «اِرْجِعُوهُمْ مَا كَذَبْتُ، وَلَا كُذَبْتُ، مَرَّتَنِي أَوْ ثَلَاثَةُ ثَمَّ وَجَدُوهُمْ فِي خَرِيَّةٍ، فَأَتَوْهُمْ بِهِ حَتَّىٰ وَضَعُوفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ»

قالَ عَبْيُرُ اللَّهِ: «أَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَقُولُّ عَلَيِّ فِيهِمْ»

۷۷۱۔ عبد اللہ بن ابی رافع رض سے روایت ہے کہ جب وہ سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ "حروریہ" کی طرف چلے تو اہل حروریہ نے کہا: "لَا حُكْمُ اللَّهِ" [اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں] تو سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمہ ایسا ہے، جو حق ہے مگر ان کا اس سے باطل کا ارادہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بیان کیا تھا کہ "میں ان کا حال بخوبی جانتا ہوں، ان کی نشانیاں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ اپنی زبانوں سے حق کہتے ہیں مگر وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا ہے اور (آپ صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا (یعنی حق بات حلق سے نیچے نہیں اترتی)، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں سب سے بڑے مبغوض یہی ہیں، ان میں ایک شخص اسود ہے، اس کا ایک ہاتھ بکری کی شرمگاہ یا عورت کے پستان کے سر کی مانند ہو گا پھر جب سیدنا علی بن ابی طالب رض نے اس کو قتل کیا تو فرمایا: اس (ذوالثدیہ) کو تلاش کرو! پھر دیکھا تو وہ نہ ملا پھر انہوں نے تلاش کرنے کا کہا اور انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم نہ میں نے تم سے جھوٹ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جھوٹ نہیں فرمایا۔ دو یا تین بار یہی فرمایا، پھر اچانک اس کو ایک گھنڈر میں پایا اور لوگوں نے اس کی لاش کو آپ کے سامنے لا کر کھو دیا۔ حدیث کے راوی عبد اللہ نے کہا: میں اس وقت وہاں موجود تھا کہ جب سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا۔

تحقیق و تحریج:

صحیح مسلم: 157/1066

۱۷۸۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ هَاشِمٍ. عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ حَيْنَمَةَ، عَنْ سُوْنَدَ بْنِ عَفَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ نَفْسِي فَإِنَّ الْحَرْبَ خَذْعَةٌ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَلَأَنَّ أَخْرَى مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ أَخْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِّيَّةِ. لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ

حَنَاجِرُهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْنُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. فَإِنْ أَذْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ، فَإِنْ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

۷۸۔ سُوئید بن غفلہ سے روایت ہے کہ سیدنا علیؑ نے فرمایا: جب میں تم کو اپنی طرف سے کوئی بات کھوں کہ [سنو] جنگ ایک دھوکہ ہے اور جب میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی ایسی بات بیان کروں، جس میں ان کی طرف جھوٹ منسوب کروں تو [اس کام] سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں آسمان سے گردادیا جاؤں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرمار ہے تھے: کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں جو ان ہوں گے، عقل کے کمزور ہوں گے اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو پڑھنے والے ہوں گے، [وہ قرآن پڑھیں گے اس کے باوجود] ایمان ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے ہوگا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرشکار سے پار ہو جاتا ہے، یہ لوگ جہاں بھی میں ان کو قتل کرو۔ قیامت کے دن ان کے قتل کرنے والوں کے لئے بہت بڑا جرہ ہے۔

تحقیق و تحریج:

صحیح البخاری: 6930؛ صحیح مسلم: 1066/154

ذِكْرُ الْخِتَالِفِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اس حدیث کو بیان کرنے میں ابو اسحاق کا (لفظی) اختلاف

179۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاً قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ آخِرِ الرَّبْعَةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُغُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُغُ السَّئِيمُ مِنَ الرَّمِيمَةِ، قَاتَلُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» خَالِفُهُ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، فَأَذَلَّ بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيْنَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ ثَرْوَانَ

۱۷۹۔ سیدنا علی الرضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انہی زمانے میں ایک ایسی قوم کا خروج ہوگا جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کہ تیرشکار سے نکل جاتا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوگا۔ یوسف بن ابی اسحاق نے اس سند میں اختلاف کیا ہے، انہوں نے ابو اسحاق اور سید بن غفلہ کے درمیان عبد الرحمن بن ثروان راوی کا بھی ذکر کیا ہے۔

تحقیق:

[اسناده ضعیف]

ابو اسحاق ”مس“ ہے، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخریج:

مندالامام احمد: 156/1

180۔ اخْبَرَنِي رَكْرِيَا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوَّدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلَيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَّهُمْ، يَمْرِقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرْوَقَ السَّهْنِ مِنَ الرَّمَيْةِ، قِتَالُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

۱۸۰۔ سیدنا علی الرضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخر زمانے میں ایک ایسی قوم کا خروج ہوگا جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلقوں سے یعنی نبیں اترے گا وہ دین سے اس طرح کل جائیں گے جس طرح کہ تیر شکار سے کل جاتا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوگا۔

تحقیق:

[اسنادہ ضعیف]

ابو اسحاق "مس" ہے، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخریج:

مند البر ار: 566

سِيمَاهُمْ

ان کی علامات کا بیان^(۱)

181۔ أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ بَكَارٍ الْحَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْلُدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ طَارِقِ بْنِ زَيَادٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلَيْهِ إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَتَلُوهُمْ ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ لَا يُجَاوِرُ حُلُوقَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَقِّ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْنُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَسِيمَاهُمْ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا أَسْوَدَ مُخْدَجَ الْيَدِ فِي يَدِهِ شَعَرَاتٌ سُودَ، إِنْ كَانَ هُوَ، فَقَدْ قَتَلْتُمْ شَرَّ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ» فَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ: "اطْلُبُوا، فَطَلَبْنَا، فَوَجَدْنَا الْمُخْدَجَ، فَخَرَزَنَا سُجُودًا، وَخَرَّ عَلَيْهِ مَعَنَا سَاجِدًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ

181۔ طارق بن زیاد سے روایت ہے کہ ہم سیدنا علیؑ کے شکر کے ساتھ خوارج کی طرف بڑھے، ان کو خوب قتل کیا، آپؑ نے فرمایا: تلاش کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ عنقریب

(۱) یہ باب خصائص سیدنا علی بن ابی طالبؑ کے اصل نسخہ میں نہیں ہے، البته السنن الکبریٰ للنسائیٰ کے نسخہ میں یہ باب موجود ہے، امام نسائیؓ کی اسی کتاب سے خصائص سیدنا علی بن ابی طالبؑ الگ کی گئی ہے، لہذا ہم نے باب تو قائم کیا ہے، مگر نمبر نہیں دیا، اس میں ہمارے پیش نظر خصائص علی بن ابی طالبؑ کے ابواب کی نمبر نگہ تھی، تاکہ قارئین کرام کو حوالہ دیتے ہوئے پریشانی اور غلطی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حق کے دعویدار ہوں گے مگر کلمہ حق ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ دینِ اسلام سے اس طرح نکلے ہوں گے جس طرح تیرشکار سے نکل جاتا ہے اور ان کی بچپان یہ ہو گی کہ ان میں ایک کا شخص ہو گا جو ہاتھ سے معدود ہو گا اور اس کے ہاتھ میں کچھ کا لے بال ہوں گے، اگر ان مقتولین میں سے وہ شخص ہو تو سمجھ جاؤ تم نے بدترین گروہ کو قتل کیا ہے اگر ان مقتولین میں سے وہ شخص نہ ملا تو سمجھ جاؤ کہ تم نے بہترین لوگوں کو قتل کیا ہے (یعنی ہم باطل پڑیں)، یہ سن کر ہم رونے لگے تو سیدنا علی المرتضیؑ نے فرمایا: اس کو تلاش کرو، تلاش کرتے کرتے وہ شخص ہمیں مل گیا اس کو دیکھ کر ہم نے بھی سجدہ شکر ادا کیا اور سیدنا علیؑ بھی ہمارے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے۔ مزید انہوں نے فرمایا: وہ کوئی اچھی بات کہیں گے۔

تحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف]

طارق بن زیاد کو فی راوی "مجہول" ہے۔ سوائے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ (الثقات: 4/395) کے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔

182- أَخْبَرَنَا الْحَسْنُ بْنُ مُذْرِكَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بْلَجْ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بْلَجْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي سُلَيْمَانَ بْنَ بْلَجْ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلَيِّ فِي التَّهْرِوَانِ قَالَ: «كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْنَاعُ رَجُلًا عَلَى يَدِهِ سَيِّئَةً» فَقُلْتُ: مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَيَدِكَ؟ قَالَ: «أَكَلَهَا بَعِيرٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّهْرِوَانِ، وَقُتِلَ عَلَيِّ الْحَرَوِيَّةُ، فَجَزَعَ عَلَيِّ مِنْ قَتْلِهِمْ حِينَ لَمْ يَجِدْ ذَا النَّدِيَّ فَطَافَ، حَتَّى وَجَدَهُ فِي سَاقِيَّةٍ» فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَغَ رَسُولُهُ» وَقَالَ: «وَفِي مَنْكِبِيهِ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ فِي مِثْلِ حَلَمَةِ النَّدِيِّ»

182- ابو سلیم بن بلج جنگ نہروان میں سیدنا علیؑ کے ساتھ تھے، وہ بیان کرتے ہیں: اس سے قبل کہ میں ایک شخص کو پچھاڑتا (میں نے دیکھا کہ) اس کے ہاتھ میں کوئی نقش تھا۔ میں نے پوچھا: تیرے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا: اسے اونٹ کھا گیا ہے پھر جب جنگ نہروان (جو سیدنا علیؑ اور خوارج کے درمیان لڑی گئی) کا دن تھا اور سیدنا علی المرتضیؑ نے اہل حروریہ کو قتل کیا تو سیدنا علیؑ اچانک

اس وقت چونک اٹھے۔ جب ذوالدیہ (پستان کی مثل ہاتھ والے شخص) کو دہاں نہ پایا۔ آپ ﷺ نے قتل گاہ میں دوبارہ چکر لگای تو اسے چھوٹی سی ندی میں پالیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول ﷺ نے حق بات پہنچائی۔ راوی کہتے ہیں اس کے کندھوں پر پستان کے سر (کی مثل بالوں کے) تین بال تھے۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

سلیم بن بُحْر فزاری راوی محبول الحال ہے، سوائے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ (الثقات: 4/329)

کے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔

ثوابُ مَنْ قَاتَلَهُمْ

ان لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا بیان جو خوارج کو قتل کریں گے

183. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُتَنَبِّرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ كَلْبِيُّ الْعَزِيزِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ جَالِسًا إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَرِ قَالَ: وَعَلَى يَكْلِمُ النَّاسَ، وَنَكْلَمُونَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ «أَتَأْدُنُ أَنْ أَتَكَلُّمْ؟ فَلَمْ يَلْتَفِثْ إِلَيْهِ، وَسَعَلَهُ مَا هُوَ فِيهِ، فَجَلَسَ إِلَى الرَّجُلِ، فَسَأَلَتُهُ مَا حَبَرْتَ؟» قَالَ: كُنْتُ مُعْتَمِرًا، فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِي: «هُوَلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ حَرَجُوا فِي أَرْضِكُمْ يُسَمُّونَ حَرُورِيَّةً» قُلْتُ: حَرَجُوا فِي مَوْضِعٍ يُسَمَّى حَرُورَاءَ، فَسُمِّوْا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: «طُوبَى لِمَنْ شَهَدَ هَلْكَتِهِمْ، لَوْ شَاءَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ لَأَخْبَرَكُمْ حَبَرِهِمْ» ، فَجِئْتُ أَسْأَلَهُ عَنْ حَبَرِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلَيْهِ قَالَ: «أَيْنَ الْمُسْتَأْذِنُ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ كَمَا قَصَّ عَلَيْنَا» قَالَ: «إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ» فَقَالَ لِي: «كَيْفَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ، وَقَوْمٌ كَذَا وَكَذَا؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ وَقَالَ: ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: «قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَشْرِقِ يَفْرَغُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَّهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْنُ مِنَ الرَّمَيَّةِ، فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجٌ كَانَ يَدَهُ نَدِيًّا أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أَنَا شَدُّكُمْ بِاللَّهِ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ فِيهِمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَأَتَيْتُمُونِي، فَأَخْبَرْتُمُونِي أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ، فَخَلَفْتُ لَكُمْ بِاللَّهِ أَنَّهُ فِيهِمْ، فَأَتَيْتُمُونِي بِهِ تَسْخَبُونَهُ كَمَا نَعِتَ

لَكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ»

۱۸۳۔ عاصم بن كلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی المرتضی ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا جس نے سفر کا لباس پہنا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں اس وقت سیدنا علی المرتضی ﷺ اور لوگوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اس آدمی نے کہا: اے امیر المؤمنین! اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی بات کروں تو سیدنا علی ﷺ نے اس کی طرف تو جنہے دی۔ وہ اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ میں اس آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس سے سوال کیا: تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا تھا، وہاں میری ملاقات سیدہ عائشہ ؓ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے فرمایا: وہ قوم جس نے تمہارے علاقے میں خروج کیا ہے اس کو ”حروریہ“ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا: انہوں نے ایک ایسے مقام (گاؤں وغیرہ جس کے وہ رہائشی ہیں) سے خروج کیا ہے جس کو ”حرراء“ کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے انہیں ”حروریہ“ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو ان کو قتل کرنے میں شریک ہوا۔ اگر ان ابی طالب چاہیں تو تمہیں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں (یعنی ان کے پاس اس قوم کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں) پھر اس آدمی نے کہا: میں اس قوم کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ جب سیدنا علی المرتضی ﷺ فارغ ہوئے تو فرمایا: اجازت طلب کرنے والا کہاں ہے؟ اس آدمی نے جس طرح ہمیں (سیدہ عائشہ ؓ والی ملاقات کا) واقعہ بیان کیا تھا، اس طرح سیدنا علی ﷺ کے سامنے بیان کردیا تو سیدنا علی المرتضی ﷺ نے بیان کیا: میں رسول اللہ ﷺ کے گھر گیا، وہاں آپ ﷺ کے ساتھ سیدہ عائشہ ؓ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے ابن ابی طالب اس دن تیری کیا کیفیت ہو گی کہ جب لوگوں کی حالت ایسی ایسی ہو گی [جن سے تیر او سطہ پڑے گا] میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) بہتر جانتے ہیں، پھر آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا، پھر فرمایا: تمہاری مخالفت میں مشرق کی جانب سے ایک قوم نکلے گی وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان کے ملک سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکلے ہوں گے جس طرح تیرکمان سے نکل جاتا ہے ان میں ایک شخص ناقص ہاتھوں

والا ہوگا اس کا ایک ہاتھ عورتوں کے پستان کی مانند ہوگا۔

پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے تم کو ان کے بارے میں بتا دیا؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے تم کو بتایا تھا کہ وہ شخص ان میں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! پھر انہوں نے فرمایا: پھر تم میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ وہ شخص ان میں نہیں ہے پھر میں نے تم کو اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان میں ہے پھر تم اس کی لاش کو میرے پاس گھینٹتے ہوئے لائے۔ لوگوں نے کیا: جی ہاں! تو سیدنا علی المرتضی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے سچ فرمایا تھا۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

رواکہ مند الامام احمد: 160/1؛ النہ لابن ابی عاصم: 913 حافظ ابن کثیر علیہ السلام [البداية والنهاية] 7/293 نے اس کی سنکو "جید" کہا ہے۔

184. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ وَهُوَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مَا كَانَ يَوْمُ النَّهْرَوَانِ لَقِيَ الْخَوَاجَ، فَلَمْ يَتَرَحَّوْا حَتَّى شَجَرُوا بِالرِّمَاحِ، فَقُتِلُوا جَمِيعًا قَالَ عَلَيْهِ: «اطْلُبُوا ذَا النُّدَيَّةِ، فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ» فَقَالَ عَلَيْهِ: «مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذَبْتُ، اطْلُبُوهُ فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نَامٌ مِنَ الْقَتْلَى، فَإِذَا رَجَلٌ عَلَى يَدِهِ مِثْلُ سَبَلَاتِ السَّنَوْرِ، فَكَبَرَ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ، وَأَعْجَمُهُمْ ذَلِكَ»

182. زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ سَيِّدُنَا عَلِيِّ المرتضى علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ نہروان کے دن ہمارا خوارج کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ وہ پیچے نہ ہٹے یہاں تک کہ تیروں سے چھلکی ہو گئے اور سب مر گئے تو

سیدنا علی المرتضی علیہ السلام نے فرمایا: پستان کی مثل ہاتھ والے کو تلاش کرو۔ لوگوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر وہ نہ ملا، تو سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا: نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ میں نے جھوٹ بولتا ہو، جاؤ اس کو تلاش کرو، لوگوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، تو اس کی لغش کو ایک گھرے میں پایا۔ اس کے اوپر اور بھی کئی لوگوں کی نعشیں پڑیں تھیں تو اچانک ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ پر بلی کی موچھوں کی طرح کے بال تھے تو سیدنا علی المرتضی علیہ السلام اور لوگوں نے نفرہ تکبیر بلند کیا اور سب نے اس پر بڑا تجھ کیا۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

ابومعاویہ اور عاشد دونوں مدرس ہیں جو کہ لفظ ”عن“ سے بیان کر رہے ہیں، سامع کی تصریح نہیں مل سکی۔

185- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ الْحَاضِرِمِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهْنَلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَطَبَنَا عَلَيْهِ بِقَنْطَرَةِ الدَّيْزَجَانِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لِي خَارِجَةٌ تَخْرُجُ مِنْ قِيلِ الْمَشْرِقِ، وَفِيهِمْ ذُو التَّدِيَّةِ، فَقَاتَلُهُمْ فَقَاتَلَتِ الْخَرُوَرِيَّةُ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِيْ: «لَا تُكَلِّمُوهُ، فَيَرِدُّوكُمْ كَمَا رَدَّكُمْ يَوْمَ حَرُوزَاءَ، فَشَجَرَ بَغْضُهُمْ بَغْضًا بِالرِّمَاحِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلَيْهِ: «أَفْطَعُوا الْعَوَالِيَّ، وَالْعَوَالِيَّ الرِّمَاحُ، فَدَارُوا وَاسْتَدَارُوا، وَقُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا» فَقَالَ عَلَيْهِ: «الْتَّمِسُوا الْمُذَدِّجَ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ شَاتِ» فَقَالُوا: مَا تَنْهِدُنَا إِلَيْهِ، فَرَكِبَ عَلَيْهِ بَغْلَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْنَيَّةَ، فَأَتَى وَهَدَةً مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: «الْتَّمِسُوهُ فِي هَوَلَاءَ، فَأُخْرِجَ» فَقَالَ: مَا كَذَبْتُ، وَلَا كُذَبْتُ فَقَالَ: «أَعْمَلُوا وَلَا تَتَكَبُّلُوا، لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَكَبُّلُوا لِأَخْبَرُكُمْ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَكُمْ عَلَى لِسَانِهِ، يَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهَدَنَا أَنَّاسٌ بِالْيَمَنِ» قَالُوا: كَيْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «كَانَ هَوَاهُمْ مَعْنَا»

185- زید بن وصب سے روایت ہے کہ ”دیز جان“ کے پل پر سیدنا علی المرتضی علیہ السلام نے ہمیں یہ خطبہ

ارشاد فرمایا: بلاشبہ میرے لیے ایک ایسی قوم کے خروج کا ذکر کیا گیا ہے جو شرق سے نکلے گی، ان میں ذو الشدیہ (پستان کے مثل ہاتھ والا) نامی ایک شخص ہو گا، آپ ان سے جنگ کرنا، تو اہل حروریہ میں سے بعض نے بعض کو کہا: تم ان سے گفتگونہ کرو (یعنی دلائل میں ان کو شکست نہیں دے سکتے) وہ تم پر رذ کیا تھا] [یعنی اب بھی تم کو لا جواب کر دیں گے] انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تیروں کا تبادلہ کیا۔ سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا: ان کے نیزروں کو قطع کرو تو سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ پس سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کے بارہ یا تیرہ ساتھی شہید ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضی علیہ السلام نے فرمایا: ناص ہاتھ والے کو تلاش کرو اور یہ دن شدید سردی کا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا: ہم اس کو تلاش نہیں کر سکے پھر سیدنا علی المرتضی علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے "شہباء" نامی نچھر پر سوار ہوئے، ایک گڑھے والی زمین پر آئے تو فرمایا: اس کو یہاں (اس گڑھے میں) تلاش کرو۔ پس اس کی نیش کو یہاں سے نکالا گیا تو فرمایا: نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پھر فرمایا: عمل کرو، توکل (پر ہی اکتفا) مت کرو۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ ہوتا کہ تم صرف توکل پر ہی اکتفا کرو گے تو میں تمہیں اس الہی فیصلے سے آگاہ کرتا جو اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان فرمایا تھا۔ وہاں جو یمنی لوگ موجود تھے انہوں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین یہ کیسا فیصلہ ہے؟ سیدنا علی المرتضی علیہ السلام نے فرمایا: وہ انہی کے بارے میں ہے۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

مصنف ابن ابی شیبۃ: 311/15؛ مندلبر ار: 580:

186 - أَخْبَرَنَا الْعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّزْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْقِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُلْكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي

الْجَنِشُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلَيِّ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَمْهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِي يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ شَيْئًا، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا، يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُخَاوِرُ صَلَاتِهِمْ تَرَاقِيَّهُمْ، يَمْرُغُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُغُ السَّهْنُمْ مِنَ الرَّمَيَّةِ، لَوْ تَعْلَمُونَ الْجَنِشَ الَّذِي يُصِيبُوهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُوا عَلَى الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَّهُ عَاصِدٌ، وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَاصِدِهِ مِثْلُ حَلْمَةِ ثَدِيِّ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيَضِّنْ، قَالَ سَلَمَةُ: فَتَرَلَنِي رَيْدٌ مَتْرَلًا مَتْرَلًا حَتَّى مَرَزَنَا عَلَى قَنْطَرَةِ، عَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّأْسِيُّ فَقَالَ لَهُمْ: «أَلْقُوا الرِّمَاحَ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاسِدُوكُمْ» قَالَ: «فَسُلُّوا السُّيُوفَ، وَأَلْقُوا جُفُونَهَا، وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ يَعْنِي بِرِّمَاجِهِمْ قَفْتَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أَصِيبَ مِنَ النَّاسِ بِؤْمِنَةٍ إِلَّا رَجُلَانِ» قَالَ عَلَيْهِ: «الْتَّمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَتَلَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» قَالَ: جَرِدُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَرَ عَلَيْهِ وَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَغَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْيَنَدُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ «اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: «إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى اسْتَخَلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَخْلِفُ لَهُ»

۱۸۶۔ سلمہ بن کہمیل سے روایت ہے کہ زید بن وصب نے مجھے بتایا جو اس لشکر میں شامل تھے جنہوں نے سیدنا علیؑ کی معیت میں خوارج (کی سرکوبی) کے لیے کوچ کیا تھا۔ پس سیدنا علیؑ نے فرمایا: اے لوگو! میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”میری امت کے کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تمہاری قراءت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی، تمہاری نمازان کی نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی اور تمہارے روزے ان کے روزوں کے

مقابلے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور یہ سمجھیں گے یہ ان کے حق میں ہے (یعنی ان کے حق میں دلیل بنے گا) حالانکہ وہ ان کے خلاف جنت بنے گا۔ ان کی نمازیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے اگر اس لشکر کو جو ان سے لڑنے جا رہا ہے پتہ چل جائے کہ نبی کریم ﷺ کی زبان سے ان کے حق میں کیا فضائل بیان ہوئے ہیں تو وہ (لشکر) اسی عمل پر بھروسہ کر لیتے۔ اس (گروہ) کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی ہے اس کا کہنی سے کندھے تک بازو ہو گا لیکن کہنی سے نیچے والا حصہ نہیں ہو گا، اس کے بازو کا اوپر والا حصہ پستان کی طرح ہو گا اور اس پر سفید بال ہوں گے۔

سلمه بن کعبہل بیان کرتے ہیں کہ زید بن وصب نے مجھے ایک ایک منزل پر اتنا رحمتی کہ ہم ایک پل پر سے گزرے۔ [راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے مقابلہ ہوئے۔] عبداللہ بن وصب را بسی ان (خوارج) کا امیر تھا پس اس نے انہیں کہا: نیزے پھینک دو اور تلواریں میانوں سے نکال لو! مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں دیے ہی قسم دیں گے جیسے "حروراء" کے روز تمہیں قسم دی تھی۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نیزے پھینک دیئے اور تلواریں سونپ لیں۔ لوگوں نے اپنے نیزوں سے انہیں روکا۔ انہوں (خوارج) نے ایک دوسرے کو ہی قتل کیا اس روز (سیدنا علیؑ) کے (لوگوں میں سے صرف دو آدمی شہید کیے گئے، پس سیدنا علیؑ نے فرمایا: مخدج (ناقص ہاتھ والے) کو تلاش کرو انہیں نہ ملا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علیؑ نفس نفس خود اٹھے حتیٰ کہ ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، آپ (سیدنا علیؑ) نے فرمایا: ان نعشوں کو نکالو پس انہوں نے اس (مخدج) کو زمین سے چھٹا (یعنی سب نیچے پڑا) ہوا پایا پس انہوں (سیدنا علیؑ) نے تکبیر (اللہ اکبر) کہی اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے چج فرمایا اور اس کے رسول ﷺ نے آگے کچھا دیا۔

عبدیہ سلمانی نے ان کی طرف کھڑے ہو کر پوچھا: اے امیر المؤمنین! اس اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں آپ نے یہ رسول اللہ ﷺ سے خود سنائے۔ انہوں نے فرمایا: ہاں! اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس حدیث کو رسول اللہ ﷺ سے خود سنائے، حتیٰ کہ انہوں نے تین مرتبہ

قسم طلب کی اور آپ (سیدنا علیؑ) قسم اٹھاتے رہے۔

تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 156/1066

187۔ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَىٰ، عَنِ ابْنِ عَوْنَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: "لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَتَبْطَأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَفْتَلُوْهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكَوْفَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَوْفَةِ»

۱۸۷۔ عبیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ (جنگ نہروان کے موقع پر) سیدنا علیؑ نے فرمایا: اگر تم فخر نہ کرتے تو میں تمہیں (اس اجر و ثواب کے متعلق) بتاتا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد ﷺ کے ذریعے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ان (خوارج) سے قاتل کریں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا آپ نے یہ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے؟ انہوں (سیدنا علیؑ) نے فرمایا: ہاں! رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم [تین مرتبہ یہ قسم اٹھائی]

تحقیق و تخریج:

[اسناد صحیح]

188۔ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغَتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ لَمَّا كَانَ حَيْثُ أُصِيبَ أَصْحَابُ النَّهْرِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «ابْتَغُوا فِيهِمْ، فَإِنَّهُمْ إِنْ كَانُوا هُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُخْدَجَ الْيَدِ، أَوْ مَثُدُونَ الْيَدِ، أَوْ مُؤْدَنَ الْيَدِ» فَابْتَغَيْنَاهُ، فَوَجَدْنَاهُ، فَدَلَّنَاهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ» قَالَ: «وَاللَّهِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا، نُمَّ ذَكَرَ كُلِّمَةً مَغْنَاهَا

لَحَدَثَنَا كُمْ بِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَلَى قَتْلَ هَوْلَاءِ»
قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ،
ثَلَاثًا»

۱۸۸۔ عبیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ جب اصحاب نہروان کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا (یعنی قتل کر کے جہنم رسید کر دیا) تو سیدنا علی ڦٽٺو نے فرمایا: ان لوگوں میں اس پستان کی مثل ہاتھ والے شخص کو تلاش کرو، اگر یہ وہی لوگ ہیں جن کا رسول اللہ ﷺ نے تذکرہ فرمایا تھا تو ان میں ایک ناقص ہاتھ والا یا پستان کی مثل ہاتھ والا یا کم ہاتھ والے شخص ہو گا۔ (یہاں راوی کوشک ہے کہ سیدنا علی ڦٽٺو نے ان تینوں میں سے کون سالفظ بولا ہے) ہم نے تلاش کرتے ہوئے اس کو پایا۔ سیدنا علی ڦٽٺو کو اس کے بارے میں بتایا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر سیدنا علی ڦٽٺو نے فرمایا: اگر تم فخر نہ کرتے تو میں تمہیں (اس اجر و ثواب کے متعلق) بتاتا یا اسی کے مثل کوئی اور جملہ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کے ذریعے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ان (خوارج) سے قاتل کریں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا آپ نے یہ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے؟ انہوں (سیدنا علی ڦٽٺو) نے فرمایا: ہاں! رب کعبہ کی قسم۔ تین مرتبہ یہ قسم اٹھائی۔

تحقیق و تحریج:

صحیح مسلم: 155/1066:

۱۸۹۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ هَاشِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَالِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ الْمُهَنَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيْهَا يَقُولُ: أَنَا فَقَأْتُ، عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَوْلَا أَنَا مَا قُوْلَتُ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَرْجُكُوا الْعَمَلَ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِالَّذِي قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَاتَلَهُمْ، مُبَصِّرًا لِضَلَالِهِمْ، عَارِفًا
بِالْهُدَى الَّذِي نَخْنُ عَلَيْهِ

۱۸۹۔ زر بن جبیش سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدنا علی الرضا فرمادی کہ میں نے قتنہ کی آنکھ پھوڑ دی ہے اگر میں نہ ہوتا تو اہل نہروان قتل نہ ہوتے۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اعمال (صالح) چھوڑ دو گے تو میں تمہیں اس اللہ فیصلے کی خبر دیتا کہ جو اس ذات نے تمہارے نبی (سیدنا محمد ﷺ) کی زبان اقدس کے ذریعے بیان فرمایا ہے (اس گروہ کے بارے میں) جوان (خوارج) کو قتل کرے گا، جنہوں نے انہیں ان کی گمراہی پر آگاہ کیا۔ اس بدایت کی معرفت حاصل کی (یعنی ان سے جنگ کرنا ہمارا فریضہ بن گیا تھا) جس پر ہم ہیں ۔

تحقیق و تخریج:

[اسناد ضعیف]

ابو مالک عمرو بن ہاشم کوئی راوی ” ضعیف ” ہے ۔

ذِكْرُ مُنَاظِرَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْخَرُورِيَّةِ، وَاحْتِجَاجِهِ فِيمَا أَنْكَرُوهُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اہلِ حِرْوَرَةَ کے ساتھ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مناظرے کا بیان اور اس میں ان (خوارج) کے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کی تردید

190. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا خَرَجَتُ الْخَرُورِيَّةُ اغْتَزَلُوا فِي دَارٍ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلَافٍ» فَقُلْتُ لِعَلَيْهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ «أَبْرُدُ بِالصَّلَاةِ، لَعَلَّيْ أَكْلَمُ هُؤُلَاءِ الْقَوْمَ» قَالَ: «إِنِّي أَخَافُهُمْ عَلَيْكَ» قُلْتُ: كَلَّا، فَلَبِسْتُ، وَتَرَجَّلْتُ، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ فِي دَارٍ نِصْفِ النَّهَارِ، وَهُمْ يَأْكُلُونَ فَقَالُوا: «مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَمَا جَاءَ بِكَ؟» قُلْتُ لَهُمْ: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَمَنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَهْرِهِ، وَعَلَيْهِمْ نُرِلَ الْقُرْآنُ، فَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ، وَلَئِنْسَ فِيْكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، لَا يُلْعَغُكُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأَلْعَغَهُمْ مَا تَقُولُونَ، فَانْتَهَى لِي نَفْرُهُمْ قُلْتُ: هَأُتُوا مَا تَقِيمُنَّمْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ عَمِهِ قَالُوا: «ثَلَاثٌ» قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: «أَمَّا إِخْدَاهُنَّ، فَإِنَّهُ حُكْمُ الرِّجَالِ فِي أَمْرِ اللَّهِ» وَقَالَ

الله: {إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57] ما شَأْنُ الرِّجَالِ وَالْحُكْمِ؟ قُلْتُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ قالوا: وَأَمَا التَّانِيَةُ، فَإِنَّهُ قَاتَلَ، وَلَمْ يَسِّبْ، وَلَمْ يَغْنِمْ. إِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَ سِبَاهُمْ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَ سِبَاهُمْ وَلَا قِتَالُهُمْ قُلْتُ: هَذِهِ ثَنَتَانِ، فَمَا التَّالِيَةُ؟ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالُوا: مَعْنَى نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ " قُلْتُ: هَلْ عِنْدُكُمْ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالُوا: «حَسِبْنَا هَذَا» قُلْتُ: لَهُمْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤهُ وَسُنْنَةِ نَبِيِّهِ مَا يَرِدُ قَوْلَكُمْ أَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا: «نَعَمْ» قُلْتُ: أَمَا قَوْلَكُمْ: «حُكْمُ الرِّجَالِ فِي أَمْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَفْرِأُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْ قَدْ صَيَّرَ اللَّهُ حُكْمَهُ إِلَى الرِّجَالِ فِي ثَمَنِ رُبْعِ دِرْهَمٍ [ص: 481]، فَأَمَرَ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَخْكُمُوا فِيهِ» أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَهْلَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْنِدَ، وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ مِثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعِيمِ يَخْكُمُ بِهِ ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] وَكَانَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَنَّهُ صَيَّرَ إِلَى الرِّجَالِ يَخْكُمُونَ فِيهِ، وَلَوْ شَاءَ لِحُكْمِ فِيهِ، فَجَازَ مِنْ حُكْمِ الرِّجَالِ، أَشَدُكُمْ بِاللَّهِ أَحْكُمُ الرِّجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَحَقِّنِ دِمَائِهِمْ أَفْضَلُ أَوْ فِي أَرْبَبِ؟ قَالُوا: بَلِي، هَذَا أَفْضَلُ وَفِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] فَنَسَدَتُكُمْ بِاللَّهِ حُكْمُ الرِّجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، وَحَقِّنِ دِمَائِهِمْ أَفْضَلُ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي بُضُعِ امْرَأَةٍ؟ خَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ قُلْتُ: وَأَمَا قَوْلَكُمْ قَاتَلَ وَلَمْ يَسِّبْ، وَلَمْ يَغْنِمْ، أَفَتَسْبُونَ أَمْكُمْ عَائِشَةَ، تَسْتَحِلُونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُونَ مِنْ غَيْرِهَا وَهِيَ أَمْكُمْ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: إِنَّا نَسْتَحِلُ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ قُلْتُمْ: لَيْسَتِ بِأَمْنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ: (النَّئِيْ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمْهَاتِهِمْ} [الأحزاب: 6] فَأَنْتُمْ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، فَأَتُوْنَا مِنْهَا بِمَخْرِجٍ، أَفَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَأَمَا مَعْنَى نَفْسِهِ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَنَا آتِيْكُمْ بِمَا تَرْضَوْنَ. إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْنَيَةِ صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لِعَلَيْهِ: «اَكْتُبْ يَا عَلَيْهِ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ» قَالُوا: لَوْ نَفَلْمُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَاتَلْنَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«امْحُ يَا عَلِيٌّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ، امْحُ يَا عَلِيٌّ، وَأَكْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» وَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِّنْ عَلَيْهِ، وَقَدْ مَحَ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَخُوذٌ نَفْسَهُ ذَلِكَ مَحَا مِنَ النُّبُوَّةِ، أَخْرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: «نَعَمْ». فَرَاجَعَ مِنْهُمُ الْفَانِ، وَخَرَجَ سَائِرُهُمْ، فَقُتِلُوا عَلَى ضَلَالِهِمْ، فَقَاتَاهُمْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ»

۱۹۰۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رض سے روایت ہے کہ اہل حرومہ نے جب خرونج کیا، وہ چھ ہزار کی بڑی تعداد میں ایک گھر پر علیحدہ جمع تھے۔ میں نے سیدنا علی المتفقی رض سے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! آپ ذرا نماز کو مٹھندا کیجیے تاکہ میں اس قوم (خوارج) سے کچھ گفتگو کر لوں، سیدنا علی المتفقی رض نے فرمایا: مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں آپ کو اذیت نہ دیں، میں نے عرض کیا: ایسا ہر گز نہیں ہو گا چنانچہ میں نے ایک خوب صورت ترین حلہ (جوڑا) زیب تن کیا، لگنگھی وغیرہ کی اور ٹھیک دوپہر کے وقت ان کے پاس پہنچا جبکہ وہ کھانا کھار ہے تھے۔ (واضح رہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رض ایک خوب رہاوادی ایسے انسان تھے)، انہوں نے مجھ کو دیکھ کر ”مر جا مر جا“ کہا اور کہنے لگے کہ اے ابن عباس! آپ کا آنا کیسے ہوا؟ میں نے کہا: میں مہاجرین و انصار صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچازاد بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے پاس سے آ رہا ہوں، انہی کے دور میں قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کی تفسیر اور اس کا معنی و مفہوم تم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا کوئی شخص تمہارے ساتھ نہیں، میں تمہیں ان کے خیال سے اور ان کو تمہارے خیال سے متعارف کراؤں گا، چنانچہ کچھ لوگ الگ ہو کر میرے پاس آئے۔ میں نے کہا: اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رض کے خلاف تمہیں کیا شکایات ہیں؟ انہوں نے کہا: تین شکایتیں ہیں۔ میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا: پہلی شکایت تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے معاملہ میں انسانوں کو حکم (فیصلہ کرنے والا) تسلیم کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔“ پس اس آیت کی روشنی میں انسانوں کا ”حکم“ سے کیا تعلق؟ میں نے کہا: ایک ہوئی۔ دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا: دوسری شکایت یہ ہے کہ انہوں نے (سیدنا معاویہ رض اور ان کے ساتھیوں سے) قتال کیا، لیکن نہ انھیں قیدی بنایا اور نہ ان کا مال لوٹا، اگر وہ کافر تھے تو انھیں قیدی بنانا جائز تھا اور اگر مومن تھے تو نہ انھیں قید کیا جا

سلتا تھا اور نہ ان سے قفال جائز تھا، میں نے کہا: یہ دوسری ہوئی۔ تیرتی شکایت کیا ہے؟ یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات کبی، انہوں نے کہا: انہوں نے عہد نامہ تھکیم سے خود ”امیر المؤمنین“ کا لقب مٹا دیا، اگر وہ امیر المؤمنین نہیں تو کیا (معاذ اللہ) امیر اکافر ہیں؟ پھر میں نے کہا: کیا ان کے علاوہ بھی کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، بس اتنا ہی ہے۔ میں نے ان سے کہا: کیا میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں تمہاری باتوں کو غلط ثابت کروں تو لوٹ آؤ گے؟ (یعنی اپنے موقف سے رجوع کرلو گے) انہوں نے کہا: ہاں! پھر میں نے کہا کہ تمہاری یہ شکایت کہ انہوں نے اللہ کے معاملہ میں انسانوں کو حکم بنا دیا، اس کے جواب میں میں تھیں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، جس میں اللہ نے ربع درہم جیسی معمولی چیز کے بارے میں انسانوں کو حکم ٹھہرا دیا ہے اور انھیں حکم دیا ہے کہ اس میں فیصلہ کر دیں، اللہ کے اس کلام کے بارے میں کیا خیال ہے:

ترجمہ: ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! شکار مت کرو، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپاؤں میں سے اس کی مثل بدله ہے، جو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں۔“

اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس نے اپنا حکم لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ وہ اس کے مابین فیصلہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس بات کا خود فیصلہ فرمادیتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں لوگوں کے فیصلے کو جائز قرار دیا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں! لوگوں کے اختلاف کو منا کر صلح پیدا کرنے اور انہیں خون ریزی سے بچانے کے لیے ”حکم“ مقرر کرنا بہتر ہے، یا ایک خرگوش کے بارے میں (جس کی قیمت ربع درہم ہے) انہوں نے کہا: ہاں، یہاں فضل و بہتر ہے۔

مزید سنو! اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کے بارے میں فرمایا:

ترجمہ: ”اوہ! اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈر تو ایک منصف، مرد کے گھروالوں سے اور ایک منصف، عورت کے گھروالوں سے مقرر کرو۔“

پس میں تمہیں پھر اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان مصالحت کروانے

اور ان کی باہمی خون ریزی کو روکنے میں حکم مقرر کرنا اس عورت کے سامان لذت سے بہتر ہے؟ - کیا میں (پہلے اعتراض سے) نکل گیا۔ (یعنی میں نے آپ کا پہلا اعتراض دور کر دیا) انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر میں نے کہا: تمہاری یہ شکایت کہ انہوں نے قتال کیا، لیکن مقابل کو بر اجلا نہیں کہا، ان کا مال نہیں لوٹا، تو اس سلسلے میں میں پوچھتا ہوں کہ تم اپنی ماں سیدہ عائشہ ؓ کی (معاذ اللہ) تتفیص کرنا پسند کرتے ہو، ان کے بارے میں بھی ان باتوں کو حلال جانو گے جو ان کے علاوہ دوسروں کے لیے حلال جانتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اگر تم یہ کہو: ان کے ساتھ وہ سب کچھ حلال ہے، جو لوئنڈیوں کے لئے حلال ہوتا ہے، تو تم نے کفر کیا اور اگر یہ کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہیں تو پھر بھی تم کافر ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ترجمہ: ”یہ نبی موننو پران کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔“

تو تم دو گمراہیوں کے درمیان پھنسنے ہوئے ہو، اس سے نکلنے کا راستہ تمہی بتاو۔ کیا میں اس شکایت سے نکل گیا (یعنی میں نے آپ کا دوسرا اعتراض بھی دور کر دیا)، انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر میں نے کہا: تمہاری یہ شکایت کہ انہوں نے اپنے نام سے ”امیر المؤمنین“ کا لقب کیوں مٹا دیا، تو میں اس کی دلیل تمہیں دیتا ہوں، جو تمہیں پسند آئے گی، نبی کریم ﷺ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین سے جب مصالحت کی تھی تو سیدنا علیؑ سے فرمایا:

”اے علی! لکھو: یہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) صلح کر رہے ہیں۔

یہ کر مشرکین کہنے لگے: اگر ہم آپ کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مانتے تو پھر آپ سے جنگ کیوں لڑتے، تب رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”اے علی! اسے مٹا دو، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اے علی! مٹا دو اور

لکھو: یہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ صلح کر رہے ہیں۔--

(یہ دلیل بیان کرنے کے بعد سیدنا عبد اللہ بن عباس ؓ نے خوارج سے فرمایا: اللہ کی قسم!

اللہ کے رسول ﷺ سیدنا علیؑ سے بہتر ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے خود ہی (محمد رسول اللہ ﷺ کے لفظ کو) مٹا دیا پس اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ آپ ﷺ نے خود کو نبوت سے مٹا دیا ہے۔ بتاؤ کیا میں اس آخری شکایت سے بھی نکل گیا (یعنی میں نے آپ کے آخری اعتراض کا مل جواب دے دیا)، انہوں نے کہا: جی ہاں! پھر ان میں سے دو ہزار لوگ دوبارہ سیدنا علیؑ کی جماعت میں واپس لوٹ آئے، یقینے انکار کر دیا، اپنی گمراہی پر انہوں نے قتال کیا اور مہاجرین و انصار نے انھیں قتل کیا۔

تحقیق:

[اسناد حسن]

تخریج:

مند الامام احمد: 1/342؛ سنن ابی داود: 4037؛ مختصر اہل المعرفۃ والتأریخ للغزوی: 1/522؛
المجمع الکبیر للطبرانی: 10/312؛ استدرک للحاکم: 2/150 امام حاکم رضی اللہ عنہ نے اسے امام مسلم رضی اللہ عنہ کی
شرط پر صحیح قرار دیا ہے، حافظہ ہی رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُؤَيَّدَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَصُفْهُ

سیدنا علی المرتضیؑ کی مذکورہ بالا صفات کی موئید روایات

191- أَخْبَرَنِي مَعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَغْبٍ الْقُرَاطِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ فَيْسِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِغُلَامٍ: «تَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ابْنِ أَكْبَادَ حَكْمًا» قَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَاتِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَبِيَّةِ، فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَسَهِيلُ بْنُ عَمْرُو فَقَالَ سَهِيلٌ: «لَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ مَا قَاتَلْنَاهُ، أَمْحَحْنَا» فَقُلْتُ: «هُوَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ، وَإِنْ رَغَمَ أَنْفُكَ، لَا، وَاللَّهِ لَا أَمْحَحْنَا» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَرِني مَكَانَهَا، فَأَرِنْهُ فَمَحَاهَا» وَقَالَ: «أَمَا إِنْ لَكَ مِثْلَهَا، سَتَأْتِيهَا وَأَنْتَ مُضطَرٌ»

191- علقمة بن قيس سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا علی المرتضیؑ سے عرض کیا: کیا آپ نے اپنے اور سیدنا معاویہؑ کے درمیان منصف مقرر کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں صلح حدیبیہ کے دن رسول اللہ ﷺ کا کاتب تھا، میں نے لکھا: یہ صلح کا معاہدہ ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ اور سہیل بن عمرو کے مابین ہوا ہے تو سہیل نے کہا: اگر ہم ان کو رسول اللہ ﷺ (صلی اللہ علیہ وسلم) تسلیم کر لیتے تو کیا پھر ان سے جنگ کرتے؟، اس (رسول اللہ ﷺ لفظ کو) کو مٹاو، میں نے کہا: اللہ کی قسم: تیری ناک خاک آلو دھووہ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں، نہیں اللہ کی قسم! میں اس کو ہرگز نہیں مٹاؤں گا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (یہ

لفظ محمد رسول اللہ ﷺ کہاں لکھا ہے) وہ جگہ مجھے دکھاو، میں نے آپ ﷺ کو وہ مقام دکھایا، آپ ﷺ نے از خود مٹا دیا اور فرمایا: تیار رہو عنقریب تم پر بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تم مجبور ہو جاؤ گے۔

تحقیق و تخریج:

[انواده ضعیف]

ابو مالک عمر و بن ہاشم کو فی ضعیف ہے، محمد بن اسحاق مدرس ہیں جو کہ لفظ ”عن“ سے بیان کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح ثابت نہیں، یوں یہ روایت سخت ضعیف ہے۔

192. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْخُدُنْبِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: «أَهْلَ مَكَّةَ كَتَبَ عَلَيْيِّ كِتَابًا بِينَهُمْ» قَالَ: فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: «لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ» قَالَ: «عَلَيْيِّ امْحُهُ» قَالَ: «مَا أَنَا بِالَّذِي أُمْحَاهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوهُ وَأَصْحَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُهُمْ إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاجِ» فَسَأَلَهُ ابْنُ بَشَّارٍ: «فَسَأَلُوكُمْ مَا جُلْبَانُ السِّلَاجِ؟» قَالَ: «الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ»

192۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اہل حدیبیہ (بشار راوی) نے کہا: یعنی اہل مکہ) کے ساتھ صلح کی تو اس کی دستاویز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی۔ انہوں نے اس میں لکھا، یہ معاهدہ محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہے۔ مشرکین نے اس پر اعتراض کیا کہ لفظ محمد (ﷺ) کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھو، اگر آپ رسول ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے ہی کیوں؟ تو نبی کریم ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو اسے نہیں مٹا سکتا، (یعنی یا رسول اللہ ﷺ کے جرأت کیسے کرسکتا ہے کہ آپ ﷺ کا مبارک نام اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر نہ دو)

ہی اس کو مٹائے) تو نبی کریم ﷺ نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹا دیا اور مشرکین کے ساتھ اس شرط پر صلح کی کہ آپ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ (آئندہ سال) تین دن کے لئے آئیں اور ہتھیار میان میں رکھ کر داخل ہوں، امام بشار کہتے ہیں کہ شاگروں نے امام شعبہ سے پوچھا کہ ”جلبان السلام“ (جس کا ذکر ہے) کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میان اور جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے (اس کا نام جلبان ہے)۔

تحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 2698؛ صحیح مسلم: 1783

193. أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْنِيُّ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَيِّ إِنْسَاقٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ فِيهَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا: لَا نُقِرُّهَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ بَيْتَهُ، وَلَكِنْ أَنَّتِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِعَلَيِّ: «امْحُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «وَاللَّهِ لَا أُمْحُوكَ أَبَداً، فَأَخْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ، وَلَيْسَ يُخْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّداً، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا السَّيْفُ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحِيدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتَبَعِّهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَهْدَى مِنْ أَصْحَابِهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ» فَلَمَّا دَخَلَهَا، وَمَضَى الْأَجْلَ أَتَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلَيَخْرُجْ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الْأَجْلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَعَّهُ ابْنَةُ حَمْرَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ يَا عَمُ فَتَنَاؤلُهَا عَلَيْهِ، فَأَخْدَ بِيَدِهَا فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: «دُونِكِ ابْنَةُ عَمِّكِ، فَحَمَّلْتُهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلَيْهِ، وَزَيْنُدُ، وَجَعْفَرُ» فَقَالَ عَلَيْهِ: «أَنَا آخْدُهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي» وَقَالَ جَعْفَرٌ: «ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَخْتَيِ»

وقال زيد: «ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحالتها» وقال: «الحاله بمنزلة الام» ثم قال: لعلي: «أنت مي، وأنا منك» وقال: لجعفر: «أشهـت خلقي وخلقي» ثم قال: لزيد: «أنت أخونا ومولانا» فقال: علي: «ألا تزوج ابنة حمراء؟» فقال: «إنهما ابنة أخي من الرضاعه» خالفة يحيى بن آدم، فروى آخر هـذا الحديث، عن إسرايل، عن أبي إسحاق، عن هاني وهبيرة بن بريم، عن عليـ ١٩٣۔ سیدنا براء بن عازب ڦٺو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کا احرام باندھا لیکن مکہ والوں نے آپ ﷺ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر صلح اس پر ہوئی کہ (آئندہ سال) آپ مکہ میں تین روز قیام کریں گے۔ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں لکھا گیا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے۔ لیکن مشرکین نے کہا کہ ہم تو اسے نہیں مانتے۔ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ روکیں۔ بس آپ صرف محمد بن عبد اللہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی ہوں۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے سیدنا علی ڦٺو سے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا لفظ مثادو، انہوں نے عرض کیا: نہیں، اللہ کی قسم! میں تو یہ لفظ کبھی نہ مناؤں گا۔ آخر آپ ﷺ نے خود ستاویزی، نبی کریم ﷺ اچھی طرح نہیں لکھ سکتے تھے تو آپ ﷺ نے ”رسول اللہ ﷺ“ کی جگہ ”محمد بن عبد اللہ“ لکھا، مزید لکھا: یہ اس معابرے کی ستاویز ہے کہ محمد بن عبد اللہ نے اس شرط پر صلح کی ہے کہ مکہ میں تکوار کے علاوہ کوئی تھیار ساتھ لیے بغیر داخل ہوں گے، تلواریں بھی میان میں رکھتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اگر مکہ کا کوئی شخص ان کے ساتھ جانا چاہے گا، تو وہ اسے ساتھ نہ لے جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص مکہ میں رہنا چاہے گا تو اسے وہ نہ روکیں گے۔ جب آئندہ سال آپ مکہ میں تشریف لے گئے اور (مکہ میں قیام کی) مدت پوری ہو گئی، تو قریش سیدنا علی ڦٺو کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیں کہ مدت پوری ہو گئی ہے اب وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ مکہ سے روانہ ہونے لگے۔ اس وقت سیدنا حمزہ ڦٺو کی ایک صاحبزادی ”چچا چچا“ پکارتی ہوئی آئیں۔ سیدنا علی ڦٺو نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا، پھر وہ سیدہ فاطمہ ڦٺو کے پاس

ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا: اپنی چچا زاد بہن کو بھی ساتھ لے لو، انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، پھر سیدنا علی، سیدنا زید اور سیدنا جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اس بچی کی کفالت [کا اختلاف ہوا۔ سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ سیدنا جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہیں۔ سیدنا زید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا: خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، پھر سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، سیدنا جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم صورت اور عادات و اخلاق میں سب سے بڑھ کر میرے مشابہ ہو۔ سیدنا زید صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور مولیٰ بھی، (یہاں لفظ مولیٰ کا معنی دوست بھی ہو سکتا ہے مگر زیادہ بہتر معنی آزاد کردہ غلام کے ہیں کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور آزاد کردہ غلام بھی، کیونکہ سیدنا زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آزاد کر دیا تھا)۔

سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے شادی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلاشبہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا اس مناسبت سے سیدنا حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رشتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھیجی تھی)

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یحییٰ بن آدم نے اس روایت کی سند کو بیان کرنے میں اختلاف کیا ہے انہوں نے ایک دوسری سند سے بیان کیا ہے: عن اسرائیل، عن ابی اسحاق عن حانی و حیرة بن یزیم عن علی۔

تحقیق و تخریج:

مند الامام احمد: 4/294؛ صحیح البخاری: 3184، 4251

194۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْنَحَاقَ، عَنْ هَانِيَّ بْنِ هَانِيَّ، وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلَيِّ، أَتَهُمْ اخْتَصَمُوا فِي ابْنَةِ حَمْرَةَ، فَقَضَى يَهُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالِهِا

وَقَالَ: «إِنَّ الْخَالَةَ أُمٌّ» قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرَوْ جُهَنَّمَ؟ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحْلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أُخْيٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ» وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مَيِّ، وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ لِزَيْنَدِ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشَهَّتْ خَلْقِي وَخُلُقِي»

۱۹۲۔ سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ ان (سیدنا علیؑ، سیدنا جعفرؑ، سیدنا زیدؑ) کے درمیان سیدنا حمزہؑ کی صاحبزادی (کی کفالت) کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس (کی کفالت) کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں فرمادیا اور فرمایا: خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے تو میں (سیدنا علیؑ) نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: کیا آپ ﷺ اس (سیدنا حمزہؑ کی صاحبزادی) سے شادی کریں گے تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ میرے لئے حال نہیں ہے کیونکہ بلاشبہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ (یعنی نبی کریم ﷺ اور سیدنا حمزہؑ نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا اس مناسبت سے سیدنا حمزہؑ کی بیٹی آپ کی رضائی بھتی تھی) اور سیدنا علیؑ کو فرمایا: تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، سیدنا زیدؑ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور مولیٰ بھی (یہاں لفظ مولیٰ کا معنی دوست بھی ہو سکتا ہے مگر زیادہ بہتر معنی آزاد کردہ غلام کے ہیں کہ ”تم ہمارے بھائی بھی ہو اور آزاد کردہ غلام بھی ہو۔“ کیونکہ سیدنا زید بن حارثہؑ نبی کریم ﷺ کے غلام تھے جن کو آپ ﷺ نے بعد میں آزاد کر دیا تھا) اور سیدنا جعفرؑ کو فرمایا: تو سب سے زیادہ صورت دیرت کے لحاظ سے میرے مشاہبہ ہے۔

تحقیق:

[اسناد ضعیف]

ابو سحاق ”مس“، ہیں جو کہ لفظ ”عن“ سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخریج:

منہ الداہم: 1/98، 108، 115؛ سنن ابی داؤد: 2/280؛ المستدرک

للحاکم: 3/120؛ و قال ”صحیح الاسناد“ و وافقہ الذہبی و صحیحہ ابن حبان (7046)